

سید صدیق ابر

صلی اللہ علیہ وسّع نعمتہ

تألیف لطیف

علام غلام مصطفیٰ مجذدی

(ایم سے)

قادری رضوی کتب خانہ نجفیت خوش روڑ لاہور



تالیف لطیف
علاء غلام مصطفی مجددی
(ایم لے)

قادری ضوی کتبخانہ نجیب خش روڈ لاہور

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نام کتاب سیدنا صدیق اکبر
مؤلف علامہ غلام مصطفیٰ مجددی (ام۔ اے)
پروف ریڈنگ غلام دیگر احمد
اشاعت جنوری 2006
صفحات	184
کپوزنگ عزیز کپوزنگ سٹرودر بار مار کیٹ گنج بخش روڈ لاہور
تحریک چوہدری محمد متاز احمد قادری
ناشر چوہدری عبدالجید قادری
قیمت = 75 روپے
<u>ملنے کے لئے</u>		

☆ مکتبہ نبویہ گنج بخش روڈ لاہور

☆ مکتبہ جمال کرم ستا ہوٹل لاہور

☆ اسلامی کتب خانہ اردو بازار لاہور

☆ شیبرادرز اردو بازار لاہور

☆ روحانی پبلیشرز ظہور ہوٹل گنج بخش روڈ در بار مار کیٹ لاہور

قادری رضوی کتب خانہ گنج بخش روڈ لاہور

Hello.042-7213575--0333-4383766

marfat.com

Marfat.com

انتساب

حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نام

جو

.....☆ کلیم طور نبوت بھی ہیں

.....☆ یار غار رسالت بھی ہیں

.....☆ پاسدار خلافت بھی ہیں

.....☆ تاجدار امامت بھی ہیں

آئینہ کتاب.....

عنوانات	مختصر	عنوانات	مختصر
باب نمبر ۱ ﴿حوال مبارکہ﴾	۶	صدیق اکبر کی خلافت	
نام، نسب، لقب	۷	صدیق اکبر کی صداقت	
زمانہ جاہیت میں	۱۰	صدیق اکبر کی تحریث	
اذہانی الغار	۱۲	صدیق اکبر کی طبیعت	
مدینہ منورہ میں	۱۸	صدیق اکبر کی محبت	
وصالِ مصطفیٰ پر ثابت قدمی	۲۰	باب نمبر ۳ ﴿مناقب رفیع﴾	
خلافت رسول کا اعزاز	۲۳		
حضرت علی کا بیعت فرما	۲۴	باب نمبر ۴ ﴿آثار صحابہ﴾	
اولین خطبہ خلافت	۲۶	باب نمبر ۵ ﴿اقوال ائمہ﴾	
خلافتِ صدیقی پر قرآنی اشارے	۲۸	باب نمبر ۶ ﴿کرامات حسنہ﴾	
خلافتِ صدیقی پر نبوی اشارے	۳۲		
ایک اہم اشکال کا جواب	۳۳	کمانے میں غیبی برکت	
ایک اور وہم کا ازالہ	۳۶	حکمِ مادر میں کیا ہے؟	
سائل کا مردانہ وار مقابلہ	۳۸	نگاہِ کرامت کی فرات	
قابلِ عرب میں شورش	۳۸	کلہ طیب سے قلعہ مسار	
بدعیان نبوت کا خاتم	۴۲	سلام سے دروازہِ محل گیا	
جمعِ قرآن کافریضہ	۴۳	دنون کے بارے میں غیبی آواز	
صدیق اکبر کی فتوحات	۴۵	اللہ تعالیٰ کا دیوار	
فتحِ عراق کا نظارہ	۴۵	شیخین کا دشمن کتاب بن گیا	
فتحِ شام کا نظارہ	۴۰	ہامِ صدیق اور آناتاب	
صدیق اکبر کا وصال پاک	۴۳	ہنگام قیامت میں بزرگی	
باب نمبر ۲ ﴿عادات کریمہ﴾	۴۶	ہم نام بزرگ کو خرقہ پہنایا	
صدیق اکبر کی علیت	۴۰	وصال کے بعد جلوہ گری	

۱۵۴	سامان جنگ کی فرائی	۱۳۰	باب نمبر ۷ (اولادِ کریمہ)
۱۵۸	فوجی مرکز کا معاشرہ	۱۳۱	حضرت عائشہ صدیقہ
۱۵۹	باب نمبر ۹ (مطاعن باطلہ)	۱۳۲	حضرت اسماء صدیقہ
۱۶۰	غزوہ احمد سے فرا	۱۳۵	حضرت محمد
۱۶۱	امارت حج سے معزودا	۱۳۲	حضرت عبدالرحمن
۱۶۲	جنائزہ میں عدم شرکت	۱۲۵	حضرت عبد اللہ
۱۶۳	خلافت پر قبضہ	۱۲۵	حضرت ام کلثوم
۱۶۴	شعب ابی طالب سے لتعلقی	۱۳۸	صدیق اکبر کی دعا
۱۶۹	جیش اسامہ سے احتراز	۱۳۸	باب نمبر ۸ (نظام الخلافہ)
۱۷۱	کوئی ہم سرانجام نہ دی	۱۳۹	ملکی لکم و نس
۱۷۸	حضرت حسین کا اعتراض	۱۳۱	عائد حکومت اور افران فوج
۱۸۰	حضرت فاروق کو خلیفہ بنانا	۱۳۶	تعزیرات و حدود
		۱۳۸	اشاعت اسلام
		۱۳۸	رسوم جامیت کا انسداد
		۱۳۸	ذمی رعایا کے حقوق
		۱۵۶	رسول اکرم ﷺ کے وعدوں کی تجھیل
۱۵۱			مالی نظام
۱۵۱			زکوٰۃ
۱۵۲			عشر
۱۵۲			خرج
۱۵۲			جزیہ
۱۵۳			نفع اور نیحہ
۱۵۳			معدان پر نیکس
۱۵۳			مسارف
۱۵۴			عسکری نظام
۱۵۴			فوج کی اخلاقی تربیت
۱۵۴			اسلحہ جنگ
۱۵۸			فوجی بیان

باب نمبر 1

احوال مبارکہ

بسم الله الرحمن الرحيم

کلیم طور نبوت، یار غار رسالت، پاسدار خلافت، تاجدار امامت، مرکز گاہ
مصطفیٰ، وارث مند مجتبیٰ، نگهدار محبوب کبریٰ، امن الناس بر مولا ہے ما، افضل البشر
بعد الانبیاء، ثانی اشین اذھانی الغار، حامل تجلیات پروردگار، اصدق الصادقین، اتقی المتقین،
خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر عبد اللہ المعروف بے صدقیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی منفردیت اور
روشن کردار کے حوالے سے تاریخ امت محمدیہ کا جلیل القدر سرمایہ ہیں، بقول اقبال سے

آنچہ	بورا ز	بارگاہ	کبریٰ
ریخت	در صدر	شریف	مصطفیٰ
آل ہمہ در بینہ صدقیق	ریخت		
لا جرم تابود زو تحقیق	ریخت		
ہمت او کشت ملت راچوں ابر			
ثانی اسلام و غار و بدر و قبر			

نام، نسب، لقب حضرت سیدنا صدقیق اکبر رضی اللہ عنہ محور ہدایت مکہ مکرمہ میں پیدا

ہوئے، والدین نے آپ کا نام 'عبدالکعبہ رکھا جبکہ رسول اللہ ﷺ نے اسے تبدیل کر کے 'عبداللہ' رکھ دیا۔ آپ کا نسب مندرجہ ذیل ہے،

"عبداللہ بن ابو قحافہ عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر القریش" (سنن کبریٰ ۳۶۹: ۶)

شجرہ نسب چھوٹا سٹوں سے پیغمبر اسلام ﷺ سے جاتا ہے۔ آپ کا شمار قریش مکہ کے سرداروں میں ہوتا تھا کیونکہ آپ اعلیٰ نسب اور والا حسب انسان تھے۔ آپ کے والدگرامی کا نام ابو قحافہ عثمان ہے جو بعد میں مشرف اسلام ہوئے، والدہ محترمہ کا نام ام الحیرسلمی بنت صخر ہے، وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں، آپ کی کنیت ابو بکر ہے، ابو بکر کا معنی ہے اولیت والے، ابتداء کرنے والے، پیش قدم رہنے والے، صحیح کے وقت کسی کے پاس جانے والے، آپ کو ابو بکر اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، پھر اس کے فروع کے لئے پیش قدم رہے، آپ صحیح انعام کے چمکدار ستارے ہیں جس سے ایسے تابناک دن کا آغاز ہوا جو ہمیشہ شام زوال سے محفوظ رہے گا، بکر، بکیرہ سے ہو تو مراد یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے منزل مراد پر پہنچے ہیں، باکورہ سے ہو تو مراد یہ کہ آپ شجر اسلام کے ثمر اول ہیں، بکر سے ہو تو مراد یہ ہے کہ آپ موسم اسلام کی پہلی بارش ہیں۔ آپ کے مشہور لقب ہیں صدقیق و عتقیق، صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ صحیح بولنے والا، صحیح کا ساتھ دینے والا اور ہمیشہ صحیح کی تصدیق کرنے والا، آپ نے معراج مصطفیٰ کی عظیمتوں اور سطوتوں کی تصدیق فرمائی تو زبان ثبوت نے آپ کو صدقیق کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ رسول اللہ ﷺ آپ کو صدقیق کے لقب سے یاد فرمایا کرتے تھے جیسا کہ اس حدیث مبارک میں موجود ہے،

(ثبت احد فانما عليك نبی و صدیق و شهید ان)

اے احد ٹھہر جا، تیرے سینے پر ایک نبی، ایک صدقیق اور دشہید جلوہ فرمائیں،

(بخاری: ۳، ۱۳۲۲: ۳، احمد، ۱۱۲: ۳، ترمذی: ۵، صواعق محرقة: ۸۰، نسائی: ۳۳/ ۵، ابو داؤد: ۲۱۲)

یہاں نبوت کے بعد صداقت کا ذکر ہے تو معلوم ہوا کہ حضور نبی اکرم ﷺ کے فوراً بعد حضرت صدقیق اکبر ﷺ ہی خلافت و نیابت کے سب سے زیادہ حقدار تھے، قرآن حکیم نے بھی نبوت کے بعد صداقت کا ذکر کیا ہے، فرمایا، ﴿انِعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾ اللہ نے انعام فرمایا نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور نیک لوگوں پر، حضرت علی المرتضی ﷺ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ آپ کا لقب صدقیق آسمان سے اتارا گیا ہے، (بیہقی: ۵۵، تاریخ کیر بخاری: ۹۹، المسند رک: ۶۵: ۳) عتیق کا معنی ہے آزاد، حضور مخبر صادق ﷺ نے فرمایا، ﴿عَتِيقٌ مِنَ النَّارِ أَبُو بَكْرٍ﴾ صدقیق ﷺ دوزخ کی آگ سے آزاد ہیں، ایک روایت کے الفاظ ہیں۔ ﴿أَنْتَ عَتِيقٌ مِنَ النَّارِ﴾ یعنی آپ دوزخ کی آگ سے اللہ کے آزاد کردہ ہیں، (مشکوٰۃ) اسی دن سے آپ کا لقب عتیق مشہور و مصروف ہو گیا، عتیق عشق سے بھی ہے، عشق کا معنی ہے حسن و جمال، گویا آپ کو حسن و جمال کی بدولت بھی عتیق کہا جاتا ہے۔ عتیق کا معنی مہربان، شفیق اور سب سے بہتر بھی ہے، یہ تمام اوصاف آپ کی ذات مقدسرہ میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ اس رقم المحرف نے عرض کیا ہے۔

شفیق و مہربان و مہ جبیں صدقیق اکبر ہیں
صحابہ کی صفوں میں بہتریں صدقیق اکبر ہیں
جسے شایاں ہوئی مند خلافت اور امامت کی
وہ محظوظ شہدیں بالیقین صدقیق اکبر ہیں
شب بھرت کے راہی اور مزار و غار کے ساتھی
روہ ایمان کے نور مبین صدقیق اکبر ہیں

حضرت سیدنا صدیق اکبر رض حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ و آله و سلم سے زمانہ جاہلیت میں تقریباً دو سال چھوٹے تھے، آپ کے بچپن اور شباب کا عرصہ بھی ان کے ساتھ بسر ہوا جو اس حقیقت کی دلیل جلیل ہے کہ آپ زمانہ جاہلیت میں بھی اوصاف حسنہ اور اخلاق کریمہ سے ملا مال تھے، آپ مشہور و معروف تاجر تھے، (طبقات کبریٰ ۲:۳۷) آپ نے اپنا پہلا تجارتی سفر اٹھا رہ سال کی عمر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ و آله و سلم کی معیت میں اختیار کیا، (دارالعرف اسلامیہ بیان ابو بکر) آپ کی صداقت، امانت، سخاوت، غریبوں کی اعانت اور مہمانوں کی خدمت، خاندانی شرافت اور زبان و دل کی دیانت بہت مشہور تھی، آپ نے ساری زندگی کسی بُت کی عبادت نہیں کی، کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگایا، کہیں بھی زنا کاری، سودخوری، قمار بازی اور ڈاکہ زانی کے مرتكب نہ ہوئے، آپ تجارت کے ذریعے رزق حلال میں کوشش رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و افر عطا فرمایا تھا جو قبول اسلام کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و آله و سلم کے یک اشارہ ابر و پر قربان کر دیا۔

پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس
صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس

کفار مکہ حضور پیغمبر نور صلی اللہ علیہ و آله و سلم کی امانت و دیانت کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رض امانت و دیانت کے بھی معرفت تھے، آپ قوم کے محبوب اور قلوب کی تائیف کرنے والے انسان تھے، (ازلة الْحَقَا ۲۰:۲) آپ دیات اور تاوان کے فیصلے کیا کرتے تھے، (ایضاً) آپ کو ایک رئیس قارہ ربیعہ بن رفع المعرفہ بہ ابن الدغنه نے ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے، ”آپ جیسا فیاض، حسن سلوک کا مالک، مہماں نواز اور غریب پرور انسان مکہ سے چلا جائے، یہ مناسب نہیں، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں“ (بخاری ۳۷)

آپ آغاز عمر سے ہی رقیق القلب، سلیم الفطرت اور بلند زگاہ انسان تھے، اس

لئے جو نبی صحیح ایمان کا سپیدہ نمودار ہوا اس کی رو پہلی کرنیں اپنے قلب و ضمیر میں اتنا نے کے لئے تیار ہو گئے، آپ کی عمر اڑتھیں سال تھی، آپ ملک شام گئے ہوئے تھے، وہاں آپ نے ایک دشمن خواب دیکھا کہ آسمان کا مہتاب روشن ان کی آغوش میں آگرا ہے، ایک راہب نے اس خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے قبول اسلام کی بشارت سنائی تو آپ فوراً عازم وطن ہوئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر غلامی اختیار کی، آپ نے ہر قسم کے لیت و لعل، حیل و جحت اور تامل و توقف کے بغیر اسلام قبول فرمایا، لہذا اس امر پر تمام مورخین و محققین کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے مرد آپ ہی ہیں۔

”حضرت عبد اللہ بن حصین تھیں“ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، میں نے جس شخص پر بھی اسلام پیش کیا، اس نے اس میں شک، تردود اور غور و فکر کیا ابو بکر پر جب اسلام پیش کیا تو انہوں نے اس میں کوئی تردود نہیں کیا، (اسد الغابہ: ۲۰۶)

خود حضرت سیدنا صدیق اکبر ﷺ کا بیان ہے کہ میں ایک مبعوث ہونے والے پیغمبر کے متعلق کچھ نہ کچھ سنتا رہتا تھا، میں نے حضرت ورقہ بن نوفل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ پیغمبر عرب کے متسلط نسب سے مبعوث ہو گا، مجھے متسلط نسب کا علم تھا اس لئے جب حضور نبی اکرم ﷺ نے اعلان بعثت فرمایا تو میں ایمان لے آیا اور آپ کی تصدیق کی، آپ فرماتے ہیں، جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے اسلام قبول کرنے پر پوری واوی مکہ میں رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کر کوئی خوش نہیں تھا، (ایضاً: ۲۰۸)

حضرت صدیق اکبر ﷺ نے قبول اسلام کے بعد تو حیدر قبول اسلام کے بعد: رسالت کے لافانی فیوضات کو عام کرنے کے لئے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی اور مال و اسباب کے بندھن تو زدیے، آپ کی تبلیغ دین کی بدولت

حضرت عثمان غنی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم جیسے عظیم افراد قریش نے اسلام قبول کیا، کفار مکہ مسلمان غلاموں کو شدید تکالیف و مصائب سے دوچار کرتے تھے، آپ نے ان غلاموں کے عوض مال خرچ کر کے ان کو کفار مکہ کے چنگل سے آزاد کرایا، ان غلاموں میں حضرت بلال جبشی، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ابو عقبیس، حضرت زینیہ، حضرت نہدیہ، حضرت نہدیہ اور حضرت کنیز رضی اللہ عنہم کے اس اگرائی بھی شامل ہیں، آپ سر عالم قرآن پاک کی تلاوت فرماتے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کا ذکر خیز کرتے تھے، اس عمل کی پاداش میں ایک مرتبہ آپ کو مار مار کر لہو لہان بھی کر دیا گیا حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا تو سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔

جان ہے عشقِ مصطفیٰ روزِ فزوں کرے خدا

جس کو ہودر د کا حزا نہ دوا اخھائے کیوں

آپ نے اپنے گھر کے قریب ایک مسجد تعمیر فرمائی جس میں عبادت و تلاوت سے شاد کام ہوتے تھے۔ آپ سفر و حضر، نشست و برخاست، اسن وجدال غرضیکہ ہر موقع اور ہر مقام پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کے ہمراہ رہے۔ اس لئے آپ کی ذات بھی کفار مکہ کے ظلم و تم کے نشانے پر تھی، نبوت کے چھٹے سال آپ نے ہجرت جہشہ کا ارادہ کیا اور پانچویں منزل تک سفر بھی طے کیا مگر ابن الدغنه کے اصرار پر واپس لوٹ آئے، اس نے آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا، آپ پھر بھی تبلیغ اسلام سے باز نہ آئے تو ابن الدغنه نے کہا کہ آپ میری شرط کی پابندی نہیں کرتے، اس لئے میں آپ کی حفاظت کا ذمہ واپس لیتا ہوں، اس پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں تمہاری دی ہوئی حفاظت واپس کرتا ہوں کیونکہ میں اللہ کی حفاظت پر مطمئن ہوں، (بخاری: ۳۰۷)

کفار مکہ نے حضور تا جدار انبیاء، محبوب کبریا ﷺ کو شعب ابی طالب کے زہرہ گداز ماحول میں محصور کر دیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر ﷺ نے آپ اور آپ کے خاندان کی ہر ممکن امداد کی، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، ﴿اَنْ مِنْ اُمَّنِ النَّاسِ عَلَىٰ بِصْحَبَتِهِ وَمَا لَهُ ابُو بَكْر﴾ تمام انسانوں میں مجھ پر سب سے زیادہ صحبت اور دولت کے لحاظ سے احسان کرنے والا ابو بکر صدیق ہے، (مکلوۃ باب مناقب ابی بکر) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا ﴿وَمَا نَفْعَنِي مَالٌ اَحَدٌ مَا نَفْعَنِي مَالٌ ابِي بَكْرٍ﴾ مجھے کسی کی دولت نے اتنا فائدہ نہ دیا جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دولت نے فائدہ دیا، (ترمذی، ابن ماجہ)

حضرت سیدنا صدیق اکبر ﷺ ہر وقت شمع نبوت پر قربان ہونے کے لئے پروانے کی طرح بے قرار رہتے تھے، مکہ کے سندل لوگ محبوب خدا ﷺ پر تکلیفون، ایڈ ار سائیں کے پھاڑ توڑتے، کاشٹ بچھاتے، راستے میں کنوئیں کھو دتے، ساحر، شاعر اور مجنوں جیسے ریک الفاظ کے ساتھ پرا پکنڈہ کرتے اور پھر وہ کی بارش بر ساتے تھے، کبھی آپ کو دھکے مارتے، کبھی نازک گردن میں چادر کا پھنڈہ ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے اور کبھی جسم مقدس پر نجاست ڈالتے تھے، اس وحشت ناک دور میں آپ ہی حضور اقدس ﷺ کے موس و نگسار تھے، ایک روایت ہے،

”ایک مرتبہ آپ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک سندل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ ﷺ کے گلے میں چادر کا پھنڈہ ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا، چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکادے کر دفع کیا اور یہ فرمایا، کیا

تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میر ارب اللہ ہے، اس دھرم دھکا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی، (زرقانی: ۲۵۲، بخاری: ۵۳۳، میرت المصطفیٰ ص: ۹۲)

کروں ترے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا
دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں

اذھانی الغار: سفر بھر ت حضور سیاح لامکاں رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ کا اہم ترین سفر ہے جب کفار مکہ فرعون عصر ابو جہل کی قیادت میں خون آشام مکواریں لیکر تعاقب کر رہے تھے، اس نازک وقت میں بھی آپ نے اپنے دیرینہ رفتیں جان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، حضرت امام ابن اسحاق علیہ الرحمہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھر ت کی اجازت طلب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جلدی نہ کرو شاید اللہ تعالیٰ تم کو میر اصحاب بنائے گا، جب بھر ت کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے درآں حال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے، آپ نے ان کو بیدار کیا، پھر آپ نے فرمایا، مجھے یہاں سے جانے کی اجازت مل گئی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ فرط سرست سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، پھر وہ دونوں گئے اور غار ثور میں داخل ہو گئے اور تین دن غار ثور میں مخہرے (اسد الغابہ ۲/۲۰۹)

غار ثور میں کیا ہوا، حضرت امام زرقانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے خود غار میں داخل ہوئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی اور اپنے بدن کے کپڑے چاڑ چاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کر دیا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور آپ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے، آپ نے ایک سوراخ کو

اپنی ایڑی سے بند کر کھاتھا جس سے ایک زہر میلے سانپ نے بار بار آپ کے پاؤں کو کاٹا، آپ نے پاؤں نہ ہٹایا کہ حضور رحمت دو عالم ﷺ کے خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے۔ شدت غم سے آپ کے آنسوؤں کے چند قطرے رخسارِ مصطفیٰ پر پڑے تو وہ بیدار ہو گئے اور پوچھا، ابو بکر کیا ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے، یہ سن کر حضور اقدس ﷺ نے زخم پر اپنا العاب وہن لگایا جس سے درد ختم ہو گیا، غار ثور کے قیام کے دوران آپ کے جواں سال فرزند، صاحبزادی اسماء اور غلام عامر بن فہیرہ مسلسل خدمت کے لئے آتے جاتے رہے، (زرقاں علی الموالی ۳۲۹) اس عرصے میں کفارِ مکہ بھی آپ کی تلاش میں تھے، انہوں نے مکہ مکرمہ کی اطراف وجوانب کا گوشہ گوشہ چھان مارا یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے غار ثور تک پہنچ گئے۔ اس وقت غار ثور کے دروازے پر حفاظتِ الہی کا پہرہ لگا ہوا تھا، دروازے پر مکڑی نے جالاتاں رکھا تھا اور کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے، یہ منظر دیکھ کر کفارِ مکہ کہنے لگے، اگر کوئی انسان اس غار میں داخل ہوتا تو یہ جالا برقرار نہ رہتا اور کبوتری انڈے نہ دیتی، ادھر کفارِ مکہ کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت سیدنا صدیق اکبر ﷺ غناک ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ! اب ہمارے دشمن اسقدر قریب آچکے ہیں کہ اگر وہ جھک کر دیکھیں تو ہمیں تلاش کر لیں گے، آپ نے فرمایا، ﴿لَا تَحْزُنْ أَنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ مت گھراً، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر ﷺ کے دل پر سکون نازل فرمادیا اور وہ بالکل بے خوف ہو گئے۔ حضرت حسان بن ثابت ﷺ نے کیا خوب فرمایا ہے۔

وَثَانِي اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمَنِيفِ وَقَدْ

طَافَ الْعَدُوَّ بِهِ ازْ صَاعِدَ الْجَبَلَا

وَكَانَ حَبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا

من الخلاائق لم يعدل به بدلا

ترجمہ: جب وہ دونوں بلند مرتبہ غار میں تھے کہ دشمن ان کے ارد گروچکر گا رہا تھا، ابو بکر رسول اللہ ﷺ کے محبوب تھے، تمام مخلوق جانتی ہے کہ آپ نے ان کے برابر کسی کو مقام نہیں دیا ہے، (زرقانی علی المواب ۲۲۷)

تمن دن گزر گئے تو یکم ربیع الاول دوشنبہ کے روز غار ثور سے باہر نکلے اور ساحل سمندر کے غیر معروف راستوں پر سفر کا آغاز فرمایا، عبد اللہ بن اریق ظاظ اور عامر بن فہیرہ بھی ان کے سفر بن گئے، عبد اللہ بن اریق ظاظ کو راستے کی شاخت کیلئے کرائے پر ساتھ لیا گیا تھا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اگلے سفر کا حال خود بیان فرمایا ہے، ”ہم رات کے اندھیرے میں روانہ ہوئے اور ایک رات اور ایک دن

چلتے رہے، حتیٰ کہ دو پہر کا وقت ہو گیا، میں نظر اٹھا کر کوئی سائے کی جگہ دیکھنے لگا۔ اچاک میں نے ایک چٹان کو دیکھا اس پر کچھ سایہ تھا، میں نے اس کو رسول اللہ ﷺ کے لئے صاف کیا اور اس پر ایک پوتین بچا دی پھر میں نے کہا، یا رسول اللہ! اس پر لیٹ جائیے، پھر میں نے نکل کر دیکھا کہ کوئی، ہمیں ڈھونڈ تو نہیں رہا، میں نے ایک بکریاں چڑانے والا دیکھا، اور اس سے پوچھا تم کس کی بکریاں چڑا رہے ہو؟ اس نے قریش کے ایک آدمی کا نام بتایا جس کو میں نے پہچان لیا، میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا، ہاں! میں نے اس کو پوچھا کہ مجھ کو دودھ دو گے، اس نے کہا، ہاں، میں نے اس سے کہا، بکری کے تھن کو گروغبار سے صاف کرو۔ اس نے دودھ نکالا، میں نے اس کو ایک پیالے میں ڈال کر پانی ملا کر تھنڈا کیا، پھر میں دودھ لے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس گیا، اس

وقت آپ بیدار ہو چکے تھے، میں نے کہا، یا رسول اللہ ﷺ ا دودھ پیجئے، آپ نے اتنا دودھ پیا حتیٰ کہ میں راضی ہو گیا، میں نے کہا، کہ اب ہمیں چلنا چاہئے، پھر ہم چل پڑے اور لوگ ہمارے پیچے آرہے تھے سراقتہ بن مالک بن جشم کے سوا جو گھوڑا سوار تھا کوئی ہم تک نہیں پہنچ سکا، میں نے کہا، یا رسول اللہ! اس نے تو ہمیں آلیا، آپ نے فرمایا، نعم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب وہ دو تین نیزے کی مقدار رہ گیا تو میں رونے لگا، آپ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں اپنی وجہ سے نہیں، آپ کی وجہ سے رورہا ہوں، رسول اللہ ﷺ نے سراقتہ بن مالک کے خلاف دعا کی تو اس کا گھوڑا اپیٹ تک اس سخت زمین میں ڈھنس گیا، وہ کہنے لگا، اے محمد ﷺ میں خوب جانتا ہوں کہ یہ آپ کا عمل ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے اس سے نجات دے، میں آپ کے پیچے آنے والوں کو انداھا کر دوں گا، آپ میرے یہ تیر اور کمان لے لیں غنقریب آپ کا میرے اوٹوں اور بکریوں سے گزر ہو گا۔ ان میں سے آپ اپنی ضرورت کے مطابق لے لیں، آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ نے دعا فرمائی تو وہ زمین سے نکل آیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا، ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے حتیٰ کہ مدینہ منورہ پہنچ گئے، (اسد الغافر: ۲۱)

سفر بھرت میں قدم قدم پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جان ثاری، وفا شعاراتی، مستقل مزاجی اور ثابت قدی کا ثبوت ملتا ہے، اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے محبوب اقدس ﷺ کا مصاحب خاص قرار دیا، جو (اذ يقول لصاحبه) کے قرآنی الفاظ سے ظاہر ہے، حضرت امام الولی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ابن عساکر نے حضرت علی

المرتضیؑ سے روایت کی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی خدمت کی ہے جبکہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی عظمت بیان فرمائی ہے، (روح المعانی) ﴿لصاحبہ﴾ سے مراد آپ ہیں جس طرح ﴿الذی اسری بعدہ﴾ میں ”عبدہ“ سے مراد محظوظ خدا احمد مجتبیؑ ہیں، اس لئے علاوہ ماتے ہیں کہ جس نے بھی حضرت ابو بکر صدیقؓ کی صحابیت کا انکار کیا وہ کافر ہے کیونکہ یہ کلام اللہ سے ثابت ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ آپ کو اپنی جان کی فکر نہیں، ذات رسول کی فکر تھی، یہ کمال درجہ کی محبت ہے۔

صدیقؓ بلکہ غار میں جاں اس پر دے چکے

اور حفظ جاں ہی جاں فرض غرر کی ہے

ثابت ہوا کہ جملہ فرائض ، فروع ہیں

اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے

آپ کا سارا خاندان بھی رسول خدا ﷺ کی خدمت و اطاعت میں سرگرم رہا،

گویا یہ سعادت ازلی آپ کے حصے میں آئی جس پر تمام کائنات پنجاہور کی جاسکتی ہے۔

حضور اقدس ﷺ کے بعد تمام صحابہ کرام کی نگاہوں کا مرکز

مدینہ منورہ میں حضرت صدیق اکبرؓ کا رخ انور تھا، آپ مدینہ منورہ میں بھی

رسول مکرم ﷺ کے سب سے زیادہ قریب اور سب سے بڑھ کر حبیب تھے، مسجد نبوی کی تعمیر

و تشكیل میں آپ کا مال خرچ ہوا، غزوہ بدر میں حفاظت مصطفیٰ پر معمور ہوئے، غزوہ احد میں

جب لڑائی نے شدت افتیار کی تو آپ پروانہ وارثع رسالت کا طواف کرتے رہے اور بال

برا بر بھی پیچھے نہ ہئے، واقعہ ایک میں آپ اور آپ کے خاندان کا بہت بڑا امتحان تھا، لیکن

ان لوگوں کے دلوں میں محبت رسول کی حلاوت بڑھتی چلی گئی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن

پاک کی سورۃ نور میں نازل فرمایا اور ان کو ﴿اولو الفضل﴾ یعنی فضیلت والے لوگ قرار دیا

غزوہ خندق میں بھی آپ رسول اللہ ﷺ کے ہر کاب تھے پانچ ہجری میں آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے طفیل ساری امت محمدیہ کو تکمیل جیسی نعمت اور رخصت عطا ہوئی ۶۰ھ میں حدیبیہ کے مقام پر اہل ایمان کا ایک اور امتحان لیا گیا، جب رسول اللہ ﷺ نے کفار مکہ کے ساتھ ان شرائط پر صلح فرمائی جن میں بظاہر کفار مکہ کا بہت زیاد فائدہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان شرائط پر بہت صدمہ ہوا تو آپ نے انہیں سمجھایا اے عمر! وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے، خدا کی قسم یقیناً وہ حق پر ہیں لہذا تم ان کی رکاب تھامے رہو، (سیرت ابن ہشام: ۳۷۸)

حدیبیہ کے مقام پر ایک اور واقعہ رونما ہوا، سفیر مکہ عروہ بن حوشق نے رسول اللہ ﷺ سے کہا، میں تو آپ کے ساتھ ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب آپ کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اس کا یہ جملہ سن کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صبر و ضبط کی تاب نہ رہی، انہوں نے تڑپ کر کہا، اے عروہ! چپ ہو جا، تو جا اپنی دیوی لات کی شرمگاہ چوں، کیا ہم بھلا اللہ کے رسول کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، عروہ نے تعجب سے پوچھا، یہ شخص کون ہے، لوگوں نے کہا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، عروہ نے کہا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے ابو بکر، اگر تیرا ایک احسان مجھ پر نہ ہوتا تو میں تیری تیخ گفتگو کا جواب ضرور دیتا، یہ واقعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عظیم غیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

ذخیرہ کا مرحلہ ہو یا غزوہ حنین کا موقعہ، طائف و تبوک کے سفر ہوں یا خیر کے معزے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح ساتھ رہے، غزوہ تبوک میں جیش عربت کی تیاری ہو رہی تھی، آپ نے اپنے گھر کا سارا مال و اسباب بارگاہ رسول میں پیش کر دیا، رسول اللہ ﷺ نے پوچھا، گھر کیا چھوڑ آئے ہو تو عرض کیا، گھر میں اللہ اور اس کے

رسول کو چھوڑ آیا ہوں، اس غزوہ میں اور بھی صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جن میں حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے اسماً گرامی نہایت نمایاں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رض کو حج کی قیادت کیلئے بھی منتخب فرمایا گیا، حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے،

وصالِ مصطفیٰ پر ثابت قدیمی بُر کی تھی، آخر اس کے وصال باکمال کا وقت بھی آگیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام نے آخری ایام میں آپ کو حکم دیا کہ مصلی نبوت پر کھڑے ہو کرامات کے فرائض سرانجام دیں، یہ حضور فخر کائنات صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کا عظیم الشان کارنامہ ہے کہ ہزاروں خداوں کے سامنے جھکنے والی پیشانیوں کو خداۓ واحد کے حضور جھکا دیا، یہ ایک ایسا عالمگیر انقلاب تھا جس نے رفتہ رفتہ اس عالم آپ و گل کے گوشے گوشے میں انگڑائیاں لینا شروع کر دیں اور ساری دنیا اللہ اکبر کے دربار الغنوں سے معمور ہو گئی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رض نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں سترہ نمازیں پڑھائیں، تمام صحابہ کرام نے آپ کی امامت پر اتفاق کیا، بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام الصلوٰۃ، ماملکت ایمانکم اور الرفیق الاعلیٰ علیہ السلام کے کلمات آلاپتے ہوئے جادہ آخرت پر گامزن ہو گئے تو غلامان در کے درد والم کی حالت دیدنی تھی، ظاہر ہے کہ ان عاشقان رحول پر جان عالم صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کے دائی فرقہ کا کتنا روح فرسا اور کس قدر جانکاہ صدمہ عظیم ہوا ہو گا، جلیل القدر صحابہ کرام بلا مبالغہ ہوش و حواس کھو بیٹھے، ان کی عقولیں گم ہو گئیں، آوازیں بند ہو گئیں اور وہ اس قدر مخبوط الحواس ہو گئے کہ ان کے لئے یہ سوچنا بھی مشکل ہو گیا کہ وہ کیا کہیں اور کیا کریں، حضرت عثمان غنی رض پر ایسا سکتہ طاری ہو گیا کہ وہ ادھر ادھر بھاگے بھاگے پھرتے تھے مگر کسی سے نہ کچھ کہتے تھے نہ کسی سے کچھ سنتے تھے،

حضرت علی رضی اللہ عنہ رنج و ملال میں بڑھاں ہو کر اس طرح بیٹھ رہے ہے کہ ان میں اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کی سکت نہ رہی، حضرت عبد اللہ بن انبیاءؓ کے قلب پر ایسا دھچکا لگا کہ وہ اس صدمہ کو برداشت نہ کر سکے اور ان کا ہارت فیل ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قد ہوش و حواس کھو بیٹھے کہ انہوں نے تکوار کھینچ لی اور نگی تکوار لے کر مدینہ کی گلیوں میں ادھر ادھر آتے جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی تو میں اس تکوار سے اس کی گردان اڑا دوں گا، (سیرت مصطفیٰ: ۳۳۳) اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عزیت اور استقامت کا وہ جو ہر عطا فرمایا جس نے امت کی کشتمی کو نذر طو فان ہونے سے بچا لیا۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے،

”حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر رنج سے آئے اور کسی سے کوئی بات نہ کہی نہ سنی، سید حمید حضرت عائشہؓ کے حجرے میں چلے گئے اور حضور اقدس ﷺ کے رخ انور سے چادر ہٹا کر آپ پر جھکے اور آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نہایت گرم جوشی کے ساتھ ایک بوسرہ دیا اور کہا کہ آپ اپنی حیات اور وفات دونوں حالتوں میں پاکیزہ رہنے ہے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں ہرگز خداوند تعالیٰ آپ پر دعوتوں کو جمع نہیں فرمائے گا، آپ کی جو موت لکھی ہوئی تھی آپ اس موت کے ساتھ وفات پا گئے، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ اے عمر! بیٹھ جاؤ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں چھوڑ دیا اور خود لوگوں کو متوجہ کرنے کے لئے خطبہ دینا شروع کر دیا، آپ نے فرمایا، جو شخص تم میں سے حضرت محمد مصطفیٰؐ کی عبادت کرتا تھا (وہ جان

لے) کہ ان کا وصال ہو گیا ہے اور جو شخص خدا کی عبادت کرتا تھا تو خدا زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت تلاوت فرمائی، ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ الْأَرْسُولُ﴾ اور محمد ﷺ تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے تو کیا اگر وہ انتقال فرمaja میں یا شہید ہو جا میں تو تم ائمہ پاؤں پھر جاؤ گے اور جو ائمہ پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہ کرے گا، اور عنقریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو ثواب دے گا، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی تو معلوم ہوتا تھا کہ گویا کوئی اس آیت کو جانتا ہی نہ تھا، ان سے سن کر ہر شخص اس آیت کو پڑھنے لگا۔ (بخاری: ۱۷۶)

حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس خطبہ مبارکہ نے صحابہ کرام کے اندر سکون کی ایک لہر دوڑا دی، حضور اقدس ﷺ کے وصال باکمال کے ساتھ تمام مسلمانوں نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور آپ کو رسول اللہ ﷺ کا خلیفہ بلا فصل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضور اقدس ﷺ کی تحریر و تکفیر کی سعادت حضرات اہل بیت کو میر آئی، آپ نے بھی امیر المؤمنین ہونے کی حیثیت سے یہی حکم صادر فرمایا کہ یہ اہل بیت کا حق ہے، اس لئے حضرت عباس اور اہل بیت نے کواڑ بند کر کے غسل دیا اور کفن پہنایا مگر شروع سے آخر تک خود امیر المؤمنین اور دوسرے تمام صحابہ کرام مجرہ مقدسہ کے باہر حاضر ہے، (مدارج النبوة: ۲۳۷) بعض علماء کرام کا خیال ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے پہلا اختلاف یہ رونما ہوا کہ حضور اقدس ﷺ کا مزار اقدس کہاں ہونا چاہئے، بعض نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں ہونا چاہئے، بعض نے کہا کہ مسجد نبوی میں ہونا چاہئے، بعض نے کہا کہ بقیع میں ہونا چاہئے اور بعض نے کہا کہ بیت المقدس میں ہونا چاہئے جو انہیا کرام

کا مرن ہے، حضرت ابو بکر صدیق رض نے فرمایا، میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ سنائے کہ نبی کو اس جگہ دفن کیا جاتا ہے جس جگہ وہ فوت ہوتا ہے، (تاریخ الخلفاء: ۲۷) گویا آپ کی فراست اور معاملہ نہی کی عادت اس نازک موقع پر بھی صحابہ کرام کی راہنمائی کیلئے مشعل راہ بن گئی۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رض فرماتے ہیں، اس حدیث مبارک کو سن کر لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلیمان ترجمہ کے پچھوئے کو اٹھایا اور جمرہ عائشہ میں آپ کا مزار مقدس تیار کر دیا، اسی میں آپ مدفون ہوئے، (ابن ماجہ: ۱۸)

آپ ﷺ کا جنازہ تیار ہوا تو لوگ نماز جنازہ کے لئے ٹوٹ پڑے، پہلے مردوں نے پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے نماز جنازہ پڑھی، جنازہ مبارکہ جمیرہ کے اندر ہی تھا، باری باری سے تھوڑے تھوڑے لوگ اندر جاتے تھے اور نماز پڑھ کر چلے آتے تھے لیکن کوئی امام نہ تھا، (ابن چامہ: ۱۱۸)

خلافت رسول کا اعزاز اس دوران حضور اقدس ﷺ کی خلافت و نیابت کا مسئلہ بہت نازک تھا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عی اس کے زیادہ حقدار تھے، کیونکہ آپ کو نماز اور حج جیسی اہم عبادات میں قیادت اور امامت کا شرف حاصل ہو چکا تھا، اب ضروری تھا کہ فوراً آپ جیسے بلند مرتبہ انسان کو اس کار عظیم کے لئے منتخب کر دیا جاتا، کیونکہ مدینہ منورہ میں منافقین کی جماعت ریشہ دو ائمبوں میں معروف تھی اور اس کے باہر طرح طرح کے فتنے سرا اٹھا رہے تھے، اس نازک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے آپ کی بیعت کی اور ان کو دیکھتے ہی تمام انصار اور مہاجرین بیعت کرنے لگے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آپ کی خلافت و نیابت کا واضح حکم موجود ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اے عائشہ اپنے بیوی ابو جعفر اور بھائی کو میرے یاس پلا دتا کہ

میں ان کے متعلق ایک مکتوب لکھ دوں، کیونکہ مجھے یہ خوف ہے کہ کوئی تنا
کرنے والا تنا کرے گا اور کہنے والا کہے گا کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں اور
اللہ تعالیٰ اور تمام مسلمان ابو بکر کے سوا ہر ایک کی خلافت کا انکار کر دیں گے،
(مسلم کتاب فضائل الصحابة)

حضرت امام تیجی نووی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حضرت ابو بکر رض کی
خلافت پر واضح دلیل ہے، (شرح مسلم ۲۸۳:۲) یہ حدیث، حدیث قرطاس کا بھی جواب ہے
، شیعہ علماء کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسالم نے کاغذ اور قلم منگوایا تھا تو آپ حضرت علی رض
کی خلافت کے متعلق لکھوانا چاہتے تھے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ حضرت ابو بکر رض کی
خلافت کے متعلق لکھوانا چاہتے تھے اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے، (شرح مسلم سعیدی ۸۹۷:۶)
حضرت علی المرتضی رض نے بھی دیگر تمام صحابہ
حضرت علی کا بیعت فرمانا کرام کے ساتھ مل کر حضرت سیدنا صدیق اکبر
رض کے ہاتھ پر بیعت فرمائی اور ان کی خلافت کے اہم مددگار ثابت ہوئے۔ آپ خود
ارشاد فرماتے ہیں :

﴿فَنَظَرَتِ فِي أَمْرِي فَاذَا طَاعْتِي قَدْ سَبَقْتِ بِيَعْتِي وَاذَا مُبَشَّرِّاً
فِي عَنْقِي لِغَيْرِي ﴾ میں نے اپنے بارے میں غور کیا کہ میرا اطاعت کرنا،
میرے بیعت لینے سے پہلے ہے اور میری گردن میں دوسرے کی بیعت
کرنے کا پختہ عہد ہے، " (فتح البلاغہ ۱۱۱)

اس کی شرح میں ابن الجید نے لکھا ہے کہ یہ کلام، کلام سابق سے منفصل
ہے۔ اس میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسالم کی وفات کے بعد کا حال بیان کیا ہے، وہ یہ کہ
آپ سے عہد لیا گیا تھا کہ خلافت کے حصول میں جگڑانہ کریں اور مطالبہ سے باز رہیں،

﴿فَلَمْ يَرْجِعْ بَعْدَ أَنْ يُبَعْدَ إِلَيْهِ كَمْ طَلَبَ﴾ کامطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت مجھ پر واجب ہے اور آپ کے حکم کی اطاعت کرنا میرے قوم سے بیعت لینے پر مقدم ہے، لہذا میرے بیعت نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے مجھے بیعت کرنے کا حکم دیا ہے، ﴿وَإِذَا الْمُبَشِّرُونَ فِي عَنْقِهِ كَمْ طَلَبَ﴾ کامطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے یہ عہد لیا ہے کہ میں بحث اور جھگڑا نہ کروں، اس لئے آپ کے حکم سے تجاوز کرنا یا آپ کی ممانعت کی مخالفت کرنا میرے لئے جائز نہیں ہے۔ (شرح نجح البلاغہ: ۲۹۵) حضرت امام حاکم نیشاپوری علیہ الرحمہ نے روایت نقل کی ہے:

”حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی تو انصار کے خطباً کھڑے ہو گئے اور ان میں سے ایک شخص نیکہا، اے جماعت مہاجرین، رسول اللہ ﷺ جب تم میں سے کسی شخص کو حاکم بناتے تو اس کے ساتھ ہمارے ایک آدمی کو بھی حاکم بناتے، سو ہمارا خیال ہے کہ اس خلافت کے لئے بھی دو شخص مقرر کئے جائیں، ایک ہم میں سے ہو اور ایک تم میں سے، پھر انصار کے سب خطبوں نے اسی طرح کہنا شروع کر دیا، اس وقت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، رسول اللہ ﷺ میں سے تھے اور امام بھی مہاجرین میں سے ہونا چاہئے اور ہم اس کی نصرت کریں گے جس طرح ہم رسول اللہ ﷺ کے انصار تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، اے جماعت انصار اللہ تعالیٰ تم کو جائز خیر دے اور تمہارے قالیں کو ثابت قدم رکھے، اگر تم اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ کرتے تو ہم اس کو قبول نہ کرتے، پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ تمہارے صاحب ہیں، ان سے

بیعت کرلو، پھر سب نے بیعت کر لی، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ منبر پر بیٹھ گئے تو آپ نے لوگوں کی طرف دیکھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر نہیں آئے، آپ نے ان کے متعلق دریافت کیا، انصار میں سے کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر لائے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے رسول اللہ ﷺ کے عمزادا اور اماما د کیا آپ مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنا چاہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ ملامت نہ کریں، سو آپ نے بیعت کر لی، پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، بھی نہیں ہیں، ان کے متعلق دریافت کیا، پھر لوگ ان کو لائے تو آپ نے فرمایا، اے رسول اللہ ﷺ کے پھوپھی زاد اور مددگار کیا آپ مسلمانوں کی جمیعت کو توڑنا چاہتے ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ ملامت نہ کریں، پھر دونوں نے بیعت کی، یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے اور انہوں نے اس کو روایت نہیں کیا، (الحدیث ۲:۲۷، شرع مسلم سعیدی ۵:۳۰۵)

شیعہ حضرات اور اہل سنت و جماعت کے مستند حوالوں سے معلوم ہوا کہ حضرت علی المرتضیؑ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کو خلیفہ بلا فصل تسلیم کیا اور فوراً باقی صحابہ کرام کے ساتھ مل کر ان کی بیعت کر لی تھی نیز آپؐ خلیفہ اول کے معاون و مددگار بن گئے تھے، حضرت امام حسنؑ نے بیان کیا کہ حضرت علی المرتضیؑ کا فرمان ہے، ہم نے خلافت کے متعلق غور کیا، پس ہم نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کو نماز میں مقدم کیا تھا، ہم اپنی دنیا کے معاملے اس شخص سے راضی ہو گئے جس شخص پر رسول اللہ ﷺ کا ہمارے دین کے معاملے میں راضی تھے (طبقات کبریٰ ۲: ۱۸۳) حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم نے جو حضرت عمر کے حوالے سے آپؐ کی بیعت میں چھ ماہ کی تاخیر والی روایت نقل

کی ہے کہ وہ حضرت امام زہری کا قول ہے اور غیر متصل ہے، اس لئے جوت نہیں، اس کے مقابلے میں مندرجہ بالا دلائل زیادہ صحیح اور مضبوط ہیں اور حضرت علی الرضا علیہ السلام کے خلوص ولثیت کے حسین ترجمان ہیں، حضرت علی الرضا علیہ السلام ساری زندگی حضرت ابو بکر صدیق علیہ السلام کی خلافت کی تعریف فرماتے رہے، چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر فرمایا، ابو بکر پر اللہ کی رحمت ہو، انہوں نے خلافت کو صحیح طور پر قائم فرمایا اور خود بھی راہ راست پر گامزن رہے، عمر پر اللہ کی رحمت ہو انہوں نے بھی خلافت کو درست رکھا اور خود بھی راہ راست پر گامزن رہے، جہاں تک کہ دین کے معاملات درست ہو گئے، (مجموع الزوائد: ۲۵) ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں،

”اسلام کے اعتبار سے سب سے افضل اور اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی میں سب سے بہتر خلیفہ ابو بکر صدیق علیہ السلام تھے، اور ان کے خلیفہ عمر فاروق علیہ السلام تھے، مجھے قسم ہے (اللہ کی) کہ اسلام میں ان دونوں کا عظیم رتبہ ہے، ان کے وصال کے بعد اسلام پر بہت سخت دور آیا، اللہ ان دونوں پر حرم فرمائے اور انہیں ان کے اعمال کا بہترین اجر عطا فرمائے، (ابن میم شرح نجح البلاغہ: ۳۶۲) اس امر پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ حضرت علی الرضا علیہ السلام کے پیچھے نمازیں ادا کرتے رہے، اسی طرح حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی علیہ السلام کے پیچھے بھی ادا کرتے رہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تینوں خلفاء برحق تھے، اگر برحق نہ ہوتے تو آپ ضرور ان کے خلاف جہاد کا پرچم بنند کرتے جس طرح بعد میں ان کے لخت جگہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، نے یزید عیاہ کے خلاف بلند کیا تھا، یہ عظیم لوگ باطل کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے، سینہ تان۔ کھڑے ہو جانے والے تھے، لہذا ان کا کسی کے پیچھے نماز ادا کرنا اس کے برجن ہونے کی دلیل ہے اور کسی کے مقابلے میں آجانا اس کے باطل ہونے کا ثبوت ہے،

شاہ مرد اشیر یزد اس قوت پروردگار لافتی الاعلیٰ لاسیف الا ذوالنقا.

اولین خطبہ خلافت صحیح بخاری شریف میں آپ کا اولین خطبہ خلافت درن ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کے بعد ارشاد فرمایا۔

”اے لوگو! اللہ مجھے ہرگز امارت کی خواہش نہ تھی اور نہ کبھی میں نے ظاہریا پوشیدہ اس کے لئے دعا کی تھی، البتہ مجھ کو یہ خوف ہوا کہ کوئی فتنہ انہی کھڑا ہو، اس لئے اس بوجھ کو اٹھانے کے لئے تیار ہو گیا، مجھے خلافت میں کوئی راحت نہیں بلکہ مجھ پر ایسا بوجھ ڈال دیا گیا ہے جس کے برداشت کرنے کی میں اپنے اندر سکت نہیں پاتا اور میں خدا تعالیٰ کی امداد کے بغیر اس فرض کو سرانجام نہیں دے سکتا، کاش آج میری جگہ کوئی ایسا شخص ہوتا جو اس بوجھ کو اٹھانے کی مجھ سے زیادہ طاقت رکھتا، لوگو! مجھے تمہارا امیر بنایا گیا ہے حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، اگر اچھا کام کروں تو میری مدد کرو اور اگر غلطی کروں تو اس کی اصلاح کرو، صدق امانت اور کذب خیانت ہے، تم میں جو کمزور ہے وہ میرے لئے قوی ہے جب تک میں اس کا حق نہ دلا دوں اور تم میں جو قوی ہے وہ میری نظر میں کمزور ہے جب تک میں اس سے دوسروں کا حق نہ دلا دوں، قانون خداوندی ہے کہ جو قوم را حق میں جہاد چھوڑ دیتی ہے وہ ذلیل کر دی جاتی ہے اور جس قوم میں بے حیائی کا رواج ہو جاتا ہے ان میں عام طور پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔“

آپ کے اولین خطبہ خلافت نے ہی تمام ارادوں کو آشکار کر دیا، آپ منحاج نبوت کے مطابق اپنی خلافت کی بینادیں استوار کر چکے تھے چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد رسالت اور آپ کے عہد خلافت میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے، خلافت صدیقی پر قرآنی اشارے : حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی

خلافت کی حقانیت پر قرآن پاک کی واضح اشارے موجود ہیں۔ ارشاد باری ہے،
 یا ایها الذین امنوا اے ایمان والو، تم میں سے کوئی اپنے
 دین سے پھر جائے گا تو عنقریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا کہ وہ اللہ
 کے محبوب ہیں اور اللہ ان کا محبوب ہے، وہ مسلمانوں پر زرم ہوں گے اور
 کافروں پر سخت، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے
 کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہتا ہے عطا فرماتا
 ہے اور اللہ بہت وسعت والا، علم والا ہے، (سورۃ المائدہ ۵۳)

اس آیت کریمہ میں مرتدوں کے خلاف علم جہاد بلند کرنے والوں کا ذکر ہے تو
 تاریخ شاہد ہے کہ ان کے خلاف جہاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ کے عساکر خلافت
 نے کیا تھا۔ اس کو شیخ احمد بن ابی یعقوب نے بھی بیان کیا ہے جو شیعہ حضرات کا نامور مورخ
 ہے (تاریخ یعقوبی ۲:۲) معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ میں جو اوصاف بیان کئے گئے ہیں ان
 کے مصدق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ کے عساکر خلافت ہیں گویا وہ اللہ تعالیٰ سے
 محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، وہ مسلمانوں پر زرم ہیں اور کافروں پر
 سخت ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت
 سے خوفزدہ نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے سزاوار ہیں، پھر یہ یاد رہے کہ جہاد کرنا،
 جہاد کی اجازت دینا، مسلمانوں پر زرمی اور کافروں پر سختی کرنا کسی صاحب اقتدار انسان کا ہی
 وصف جلیل ہو سکتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری ہے،

﴿لِلْفَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ اخْرَجُوا﴾ (وہ مال) ان فقرا
 مہاجرین کیلئے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے والوں سے نکال دیئے گئے یہ
 لوگ اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں،

ہی لوگ صادق ہیں، (سورۃ الحشر) (۸)

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کے صادق ہونے کا ذکر فرمایا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انہی صادق لوگوں نے خلیفہ بلا فصل نامزد کیا تھا اور اعلان فرمایا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور انسان خلافت مصطفیٰ کا حقدار نہیں ہو سکتا، خود حضرت علی الرضا رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، ﴿فَقَدْ مَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ فِيمَا نَهَا فِي الْأَرْضِ فَمَنِ اتَّبَعَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (محدث) فرماتے ہوئے آپ کو آگے بڑھایا تھا، اب کون شخص آپ کو پیچھے کر سکتا ہے، (مدرج المعرفة) لہذا اگر آپ کو خلیفہ بلا فصل نہ تسلیم کیا جائے تو تمام مہاجرین کا ذب قرار پائیں گے اور یہ نص قرآنی کی مخالفت ہے، ایک اور مقام پر ارشاد باری ہے،

﴿قُلْ لِلْمُخْلَفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ ﴾ آپ ان پیچھے رہ جانے والے اعرابوں سے فرمائیے کہ عنقریب تم کو اسی قوم کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے بلا یا جائے گا جو بہت جنگجو ہے، تم ان کے ساتھ جنگ کرتے رہو گے یادہ مسلمان ہو جائیں گے، اگر تم نے اطاعت کی تو تمہیں بہت اچھا اجر عطا کرے گا، اور اگر تا فرمانی کی جس طرح پہلے تا فرمانی کر چکے ہو تو اللہ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا، (سورۃ الحجۃ: ۱۶)

تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہی اعراب کو بنو حنیفہ، منکرین زکوٰۃ اور دیگر مرتدین کے خلاف جہاد کرنے کے لئے دعوت دی تھی، اس آیت کریمہ میں گویا آپ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور مقابلہت پر دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، جب اعراب کو دعوت جہاد دینے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں تو آپ کی خلافت و امامت واجب الامر ہوگی، اگر اس سے مراد فارس و روم کے کفار ہوں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ ان دیار کفر کے خلاف بھی سب

سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دعوتِ جہاد وی تھی اور عساکر اسلامی کو تیار کیا تھا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے دور میں نہ کافروں مشرکوں کے خلاف جہاد ہوا اور نہ ہی مرتدوں کے خلاف کوئی معرکہ لڑا گیا، لہذا ان کے دور کا یہاں ذکر نہیں ہے، ایک اور مقام پر ارشاد باری ہے،

﴿اَهُدْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطُ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾
 (اے اللہ) یہیں سید ہے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے
 انعام فرمایا، (سورۃ الفاتحہ)

حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت پر دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ انبیا کرام، صدیقین، شحداء اور صالحین ہیں، اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ صدیقین کے سرتاج اور سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں لہذا آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ راستہ مانگنے کا حکم دیا ہے جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات کامران ہیں، اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غلط ہوتے تو ان کی پیروی ہرگز جائز نہ ہوتی، اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ آیت کریمہ امامت صدیقی پر دلیل کامل ہے، (تفسیر کبیرا: ۲۶۰) ایک اور مقام پر ارشاد باری ہے،

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ اَمْنَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ فرمایا کہ تم میں سے جو اچھے عمل کرے وہ اس کو ضرور زمین میں خلافت عطا کرے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو عطا فرمائی،

حضرت امام محمود آلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اکثر علماء کرام نے خلفائے اربعہ کی خلافت کے برحق ہونے پر اس آیت کریمہ سے دلیل حاصل کی ہے کیونکہ اللہ نے حضور

قدس ﷺ کے رو برو منوں کو خلافت عطا کرنے، دین میں احکام بخشنے اور دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونا ضروری ہے، ورنہ وعدے کا خلاف لازم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے حق میں ممتنع ہے، پھر یہ ساری خوشخبری خلفائے اربعہ کے دور میں واقع ہوئی تو اس لحاظ سے ان میں سے ہر ایک برحق خلیفہ ہو گا۔ (روح العالیٰ: ۱۸۵) اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق ؓ اور دیگر خلفاء کرام کو بالترتیب اللہ تعالیٰ نے خلافت سے سرفراز فرمایا ہے، اب کسی ایک کی خلافت کا انکار دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت و موبہت کا انکار ہو گا، حضرت امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی مرتضیؑ کی خلافت کی ضامن ہے، کیونکہ وہی لوگ (سب سے پہلے) ایمان اور حسن اعمال کے اہل ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت تیس سال ہو گی، حضرت ابن عربی رحمہ اللہ نے احکام میں اس قول کو اختیار فرمایا ہے کہ یہ آیت خلافت اربعہ کا ثبوت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خلیفہ بنایا اور اپنی امانت عطا فرمائی، یہ خلفاء کرام دیے ہی دین برحق پر گامزن تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پسند فرمایا، یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی انسان بھی بزرگی میں ان سے مقدم نہیں، انہوں نے اسلامی سیاست کے لئے خود کو تیار کیا اور دینی سرحدوں کا تحفظ فرمایا، پس ان کے لئے اللہ تعالیٰ کا عہد خلافت جاری ہو گیا، اگر یہ عہدان کے لئے نہیں تو پھر اور کون اس کا زیادہ حقدار ہے، آج تک کوئی شخص بھی ان کا ہمسرنہیں ہوا، اس قول کو حضرت امام قثیری علیہ الرحمہ نے حضرت ابن عباس ؓ سے روایت کیا ہے (تفیر قرطبی) ایک اور مقام پر ارشاد باری ہے،

فَوَإِذَا سَرَ النَّبِيُّ الْعَلِيمُ الْخَيْرُ (۵۶) اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات فرمائی پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھی اور اللہ نے

اے نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے اسے کچھ جتایا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی،
پھر جب نبی نے اسے خبر دی تو بولی حضور کو کس نے بتایا، فرمایا، مجھے علم
والے خبردار نے بتایا، (سورہ التحريم: ۳)

حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، نبی اکرم ﷺ نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے تحریم ماریہ اور اس کو صیغہ راز میں رکھنے کیلئے سرگوشی فرمائی، بعض نے فرمایا کہ جب حضور اقدس ﷺ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے چہرے پر غیرت کو ملاحظہ کیا تو انہیں خوش کرنے کے لئے دو چیزوں کے بارے میں سرگوشی فرمائی، ایک تحریم ماریہ اور دوسری خلافت ابو بکر اور اس کے بعد خلافت عمر کی بشارت، یہ حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے (تفیر کبیر: ۲۰: ۲۲) مفسر شیعہ جناب ابو الحسن علی الحنفی بھی لکھتے ہیں، رسول کریم ﷺ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ بنت عمر کو فرمایا، ﴿ان ابا بکر یلى الخلافة بعدی ثم من بعده ابو كعب﴾ تحقیق میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے اور ان کے بعد تمہارے والد عمر خلیفہ ہوں گے، (تفیرتی: ۲: ۲۶) علامہ طبری بھی لکھتے ہیں، زجاج سے مروی ہے کہ جب حضور اقدس ﷺ نے حضرت ماریہ کو اپنے اوپر حرام فرمالیا تو حضرت حفصہ کو خبر دی کہ میرے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے، (جمع البیان: ۱۰: ۲۳) علامہ فیض کاشانی شیعی نے بھی لکھا ہے، حضور اقدس ﷺ نے ام المؤمنین حضرت حفصہ سے فرمایا، میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، تم کسی کو بتاؤ تو تم پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی، انہوں نے عرض کی، ہاں، پھر آپ نے فرمایا، میرے بعد ابو بکر کو خلافت ملے گی اور ان کے بعد عمر کو، انہوں نے عرض کی، حضور آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے، آپ نے فرمایا مجھے یہ بات اللہ علیم و خبیر نے بتائی ہے، (تفیر صافی: ۲/ ۱۶) اس تفسیر کے لئے مندرجہ ذیل کتابیں

بھی گواہی دے رہی ہیں، (روح المعانی ۱۵:۲۸، تفسیر جمل ۳:۲۶۵، تفسیر بمحیط ۸:۲۹۰، تفسیر قرطی ۱۸:۱۲۳، تفسیر مظہری ۹:۲۲۹) ایک اور مقام پر ارشاد باری ہے،

ثانی اثنین اذہماً... (سورۃ التوبہ)

ترجمہ: دو کا دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے

حضرت امام عبد اللہ قرطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، بعض علماء کرام کا فرمان ہے، یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ؓ خلیفہ ہوں گے، اس لئے کہ خلیفہ وہی ہوتا ہے جو ثانی ہو، میں نے اپنے بزرگ امام ابو العباس احمد بن عمر علیہ الرحمہ سے سنا کہ صرف حضرت ابو بکر صدیق ؓ ہی ثانی اثنین کہلانے کے حقدار ہیں، جس کام کو بھی حضور اقدس ﷺ نے قائم کیا، ان کے بعد اس کو حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے قائم رکھا، وصال مصطفیٰؑ کے بعد قبائل عرب مرتد ہو گئے تو مکہ اور مدینہ اور جو اٹا کے علاوہ کہیں بھی اسلام باقی نہ رہا، حضرت ابو بکر صدیق ؓ پھر سے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے اور ان کو دین میں داخل کرنے کیلئے بر سر پیکار ہوتے رہے جس طرح یہ کام حضور اقدس ﷺ نے فرمایا تھا، لہذا آپ ہی کو ثانی اثنین کہنا درست ہے، (تفسیر قرطی ۸:۹۶)

بقول اقبال

ہمت اوکھت ملت را چون ابر

ثانی اسلام و غار و بدرو قبر

قرآن پاک کے بعد حضور سرور الولاک ﷺ خلافت صدیقی پر نبوی اشارے کے فرمان پاک سے چند نظائر و شواہد پیش کئے جاتے ہیں، جن کا ایک ایک لفظ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کی روشن برهان ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ سہ

آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے
دیدہ کور کو کپا آئے نظر کیا دیکھے

..... ۴۱

حضرت عصمه بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بخرا زادہ کا ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وس علیہ الرحمۃ الرحمۃ کے پاس اس لئے آیا ہوں کہ آپ سے پوچھوں، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم صدقے کے مال کس کے پاس لا یا کریں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وس علیہ الرحمۃ الرحمۃ نے ارشاد فرمایا، ابو بکر کے پاس، پھر اس نے سوال کیا کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر، آپ نے فرمایا، عمر کے پاس، اس نے کہا، جب عمر بھی وفات پا جائیں گے تو پھر، آپ نے فرمایا، عثمان کے پاس، اس نے کہا جب عثمان بھی وفات پا جائیں گے تو پھر، آپ نے فرمایا پھر اپنی جانوں کو دیکھنا۔ (طبرانی ۱۸۰:۲)

..... ۴۲

حضرت سہل بن شمس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وس علیہ الرحمۃ الرحمۃ کے ساتھ خرید و فروخت کی اور پوچھا کہ آپ کا وصال ہو جائے تو آپ کے قرض کا کون ذمہ دار ہو گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وس علیہ الرحمۃ الرحمۃ نے ارشاد فرمایا، ابو بکر ذمہ دار ہو گا، اس نے پوچھا، ان کی وفات کے بعد کون ذمہ دار ہو گا، آپ نے فرمایا، عمر، (عمدة القاری ۱۷۸:۱۶)

..... ۴۳

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وس علیہ الرحمۃ الرحمۃ نے فرمایا، میں مخواہب تھا کہ اپنے آپ کو ایک کنوئیں پر ملاحظہ فرمایا، کنوئیں پر ایک ڈول تھا، میں نے کنوئیں سے اتنا پانی باہر نکالا جتنا اللہ نے چاہا، پھر وہ ڈول مجھ سے ابو بکر نے لے لیا، اس نے ایک یاد ڈول پانی نکالا مگر ڈول نکالنے میں کمزوری تھی، اللہ اس کو معاف فرمائے، پھر

وہ ڈول بڑا ہو گیا تو اسے عمر نے پکڑ لیا، میں نے ڈول نکالنے میں عمر سے زیادہ کوئی باہم تھیں دیکھا، جہاں تک کہ انسان اونٹوں کی طرح سیراب ہو گئے، (بخاری، مسلم پاپ الماقب) اس فرمان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک یادو ڈول نکالے اور ڈول نکالنے میں جو کمزوری تھی تو یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی خلافت دو سال تک رہے گی اور اس میں اسلام اور اہل اسلام کے شدید امتحانات رونما ہوں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نہایت ہمت اور طاقت کے ساتھ ڈول ٹھینچنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی خلافت میں اسلام کا بھرپور غلبہ ہو جائے گا اور دور دور تک عظمت توحید و رسالت کے پرچم لہرائے جائیں گے،

..... ۴۲

حضرت سفیینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ﴿الخلافة بعدى ثلاثة سنۃ ثم تكون ملكا﴾ میرے بعد خلافت تیس سال تک ہو گی، اس کے بعد باشہت ہو گی، حضرت سفیینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ مدت اس طرح ہوتی ہے کہ خلافت ابو بکر دو سال، خلافت عمر دس سال، خلافت عثمان پانچ سال اور خلافت علی چھ سال تک جاری رہی، (طبرانی: ۱۵۵، دیانۃ الدین و الشعیف: ۳۲۰)

..... ۴۵

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، میں نے رات کو ایک مرد صالح کو ملاحظہ کیا، بے شک ابو بکر صدیق رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ملحق تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ملحق تھے اور عثمان غنی ان کے ساتھ ملحق تھے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب ہم بارگاہ رسول سے نکلے تو کہنے لگے، مرد صالح ہے

مراد خود رسول اللہ ﷺ ہیں اور جوان کے ہمراہ ہیں وہ اس کام پر فائز ہیں جس کیسا تھا
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معموت فرمایا ہے، (صحیح ابن حبان ۲۰:۹)

..... ۶)

حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت حضور اقدس ﷺ نے مسجد کی
بنیاد قائم کی تو آپ نے پہلا پتھر رکھ کر فرمایا، ابو بکر میرے پتھر کے ساتھ پتھر رکھے، پھر
فرمایا، اب عمر، ابو بکر کے پتھر کے ساتھ پتھر رکھے، پھر فرمایا، اب عثمان، عمر کے پتھر کے
ساتھ پتھر رکھے، اس کے بعد ارشاد فرمایا، ﴿هُو لَاءُ الْخُلُفَاءِ مِنْ بَعْدِي﴾ میرے
بعد یہ ہیں خلفاً ایک روایت میں ہے، میرے بعد یہ ہیں میرے حکم کے والی، (دلائل المدونة
۵۵۲:۲) حضرت امام حاکم علیہ الرحمہ نے متدرک میں فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے،

..... ۷)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک باغ میں
داخل ہو گئے، کوئی آیا اور دروازے پر دستک دینے لگا، آپ نے فرمایا، انس، دروازہ کھولو اور
آنے والے کو جنت کی اور میرے بعد میری خلافت کی خوبخبری سنادو، میں نے عرض کیا،
یا رسول اللہ کیا میں اسے بتا دوں، آپ نے فرمایا، بتا دو، ﴿فَاذَا ابُو بَكْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فَقَلَّتْ أَبْشَرَ بِالْجَنَّةِ وَ بِالْخِلَافَةِ مِنْ بَعْدِ النَّبِيِّ﴾، وہ حضرت ابو بکر تھے، میں نے
انہیں جتنی ہونے اور نبی اکرم ﷺ کے بعد خلیفہ ہونے کی بشارت سنائی، پھر کسی اور آدمی
نے دروازے پر دستک دی تو آپ نے فرمایا، دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی اور
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت کی بشارت سنادو، میں نے عرض کیا، میں اسے بتا دوں،
آپ نے فرمایا، بتا دو، میں باہر نکلا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، میں نے انہیں بھی بشارت سن
دی، پھر کوئی اور آدمی آگیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، انس، اس کے لئے بھی دروازہ کھول دو اور

اسے بھی جنت کی اور عمر کے بعد خلافت کی بشارت سنادا وریہ (بھی کہہ دو) کہ وہ قتل کیا جائے گا، میں نے باہر نکل کر دیکھا تو حضرت عثمان تھے، وہ بھی اندر آگئے اور کہا، اللہ کی قسم میں کبھی نہیں بھولا اور نہ میں نے کسی چیز کی آرزو کی ہے اور جب سے رسول اللہ کی بیعت کی ہے اس ہاتھ سے کبھی اپنی شرم گاہ کو نہیں چھووا، آپ نے فرمایا، یہ صحیح ہے، (دلائل الدینۃ ابو دیم: ۲۸۲)

..... ۴۸

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، میں نے ابو بکر اور عمر کو آگے نہیں رکھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگے رکھا ہے، لہذا ان کے ساتھ ثابت قدم رہو گے تو ہدایت یافتہ رہو گے اور جس نے ان کی تو ہین کی، اس کو قتل کر دیکونکہ اس نے میری اور اسلام کی تو ہین کی، (فردوس الاخبار: ۲۶۵)

..... ۴۹

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی حیروی کرنا، عمار کی ہدایت سے ہدایت حاصل کرنا اور عبد اللہ بن مسعود کا عہد مضبوطی سے پکڑنا، (مندرجہ: ۲۰۱: ۵)

..... ۵۰

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں وصالِ مصطفیٰ سے پانچ راتیں پہلے حضور اقدس ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر فرماء ہے تھے، ہر نبی نے اپنی امت سے ایک خلیل بنایا ہے، بے شک میری امت سے میرا خلیل ابو بکر ہے، اور خبردار، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا، (طبرانی فی الکبیر: ۲۱: ۱۹) اگر چہ بخاری و مسلم کی روایات میں خلیل نہ بنانے کا ذکر ہے۔ مگر ان میں بھی یہ آرزو موجود ہے کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، ہو سکتا ہے

اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اجازت بھی عطا فرمادی ہو، کیونکہ آپ کی کوئی آرز و ایسی نہیں جس کو حق تعالیٰ نے کمال رحمت سے پورا نہ فرمایا ہو، اس اجازت کا ذکر اس حدیث مبارک میں دکھائی دے رہا ہے۔

..... ﴿۱۱﴾

حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو اپنے اصحاب باصفا سے فرمایا، میرے ہمراہ قباد والوں کے پاس چلوتا کہ ہم ان کو سلام کہیں، صحابہ کرام آپ کے ہمراہ آئے اور سلام کہا، انہوں نے بھی آپ کو مر جبا کہا، پھر آپ نے فرمایا، اے اہل قبا، اس سیاہ پتھروں والی سرز میں سے پتھراٹھا لاؤ، کافی پتھر اکھٹے کر دیے گئے تو آپ نے اپنے عصام بارک سے ان کے قبلہ کا خط کھینچا اور ایک پتھر اس خط پر رکھ دیا، پھر فرمایا، اے ابو بکر ایک پتھراٹھا اور میرے پتھر کے پہلو میں رکھ دو، پھر فرمایا اے عمر ایک پتھراٹھا اور ابو بکر کے پتھر کے ساتھ رکھ دو، پھر فرمایا، عثمان تم بھی ایک پتھراٹھا اور عمر کے پتھر کے ساتھ رکھ دو، اس کے بعد دوسرے لوگوں سے فرمایا، ہر آدمی اپنا اپنا پتھر اس خط پر اپنی مرضی کے مطابق رکھ دے، (بلبرانی، ۲۳۰:۲)

﴿احد عشر کو کبائے﴾

مال فدک کا معاملہ علما کرام نے فدک کے بارے میں لکھا ہے کہ فدک خیبر کا ایک علاقہ ہے جس میں کھجور کے باغات اور چشمے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ علاقہ اپنے نبی محترم ﷺ کو "فسی" کے طور پر عطا فرمایا تھا، یہ علاقہ مدینہ منورہ سے دو یا تین دن کی مسافت پر واقع ہے، جب حضور اقدس ﷺ خیبر پہنچے اور تین قلعوں کے علاوہ تمام قلعوں کو فتح کر لیا اور آپ نے ان کا شدید محاصرہ کیا تو ان قلعہ والوں نے پیغام بھیجا کہ آپ انہیں جلاوطن ہونے دیں تو وہ قلعوں کے دروازے کھول دیں گے، آپ نے ان کی یہ شرط

قبول فرمائی، جب اہل فدک کو یہ اطلاع ملی تو انہوں نے بھی یہ پیغام بھیجا کہ وہ فدک کے پہلوں اور دیگر مالوں کا نصف دے کر صلح پر تیار ہیں، آپ نے ان کی شرط بھی منظور فرمائی، چنانچہ فدک کا علاقہ وہ تھا جس کی فتح کے لئے مجاہدین اسلام نے اپنی سواریاں نہیں دوڑائی تھیں، یہ زرخیز علاقہ رسول اللہ ﷺ کے تصرف خاص میں تھا، آپ اس کی آمدن سے عام مسلمانوں اور مسافروں کی امداد کیا کرتے تھے، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں مذکون مسلمانوں کی امداد کیا کرتے تھے تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور دیگر اہل بیت نے حصول فدک کا مطالبہ کیا آپ نے فرمایا، اے بنت رسول اللہ! میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ یہ حیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں وہ میرے بعد مسلمانوں پر صدقہ ہیں، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ازدواج مطہرات نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذریعے فدک کا مطالبہ کیا تو آپ نے جواب دیا، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیا کا کوئی وارث نہیں بنایا جاتا، ہم نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے، یہ مال میری آل اور مہمانوں کی ضروریات کے لئے ہے اور جب میں وصال کر جاؤں گا تو اس کا متوافق وہ آدمی ہو گا جو میرے بعد مسلمانوں کا حکمران ہو گا، اس حدیث کو سننے کے بعد ازدواج مطہرات وراثت کے سوال سے دستبردار ہو گئیں، (ملحاظہ جنم البلدان: ۲۳۸) جہاں تک اس حدیث مبارک کا تعلق ہے کہ ہم گروہ انبیا کا کوئی وارث نہیں بنایا جاتا، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اختراع نہیں بلکہ اس کی نظریہ حضرات شیعہ کی معتبر کتابوں میں بھی موجود ہے، مثلاً ابراہیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو الحسن علیہ السلام سے سوال کیا، میں آپ پر قربان، کیا نبی محترم ﷺ تمام انبیا کے وارث ہیں، فرمایا، ہاں پس ہم وہ افراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور اس کتاب کا وارث بنایا جس میں ہر چیز کا بیان ہے، (الاصلون الکافی: ۲۲۶)

حضرت ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ بے شک علی ابن ابی طالب

اللہ کی عطا ہیں، وہ علم اوصیا کے وارث ہیں اور علم سابقین کے وارث ہیں، اور محمد ﷺ کے علماء انبیا و مسلمین کے علم کے وارث ہیں، (ایضاً: ۲۲۳) حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ علماء انبیا کے وارث ہیں کیونکہ انبیا درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے، اپنی احادیث کا وارث بناتے ہیں، (الاصول من الکافی: ۳۲) ان روایات سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس ﷺ انبیا و مسلمین کے وارث ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے مال و اسباب کے وارث نہیں بلکہ ان کے علوم و معارف کے وارث ہیں، اس طرح ائمہ اطہار بھی آپ کے علوم و معارف کے وارث ہیں، یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا موقف تھا کہ انبیا کرام کی مالی وراثت نہیں ہوتی، علمی وراثت ہوتی ہے اور آپ کا یہ موقف صرف حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لئے نہیں تھا بلکہ ازدواج رسول کے لئے بھی تھا جن میں آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصة رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں، کیا آپ نے اپنی صاحبزادی کا مال بھی غصب کر لیا تھا؟ وہ حقیقت یہ نہایت خلوص ولہیت کے ساتھ احکام دین کو نافذ کرنے کا معاملہ تھا جس کی تائید قرآن پاک سے ہوتی ہے، علاقہ فدک "فسی" تھا اور اس کا اعتراف حضرات شیعہ نے بھی کیا ہے (مجمع البیان: ۲۶۰: ۹) فسی کے بارے میں قرآن پاک کا واضح حکم موجود ہے،

﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ﴾ اور جو غنیمت

دلائی اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے وہ اللہ اور رسول کی ہے اور رشتہ داروں

اور قبیلوں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے کہ تمہارے انفیا کا مال نہ ہو جائے

یہ ان فقراء مہاجرین کے لئے ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکال

دیئے گئے اور یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو مہاجرین کے آنے سے

پہلے دار بھرت میں رہتے ہیں اور مہاجرین سے پیار کرتے ہیں اور یہ ان لوگوں

کے لئے بھی ہے جو ان کے بعد آئیں گے اور یہ کہیں گے اے ہمارے رب
ہماری بخشش فرمادا اور ہم سے پہلے موننوں کی بخشش فرماء، (سورہ الحشر: ۷۱)

معلوم ہوا کہ ”فی“ کی آمدن اللہ تعالیٰ کے راستے میں، رسول اللہ ﷺ، آپ
کے رشتہ داروں، تیمبوں مسکینوں، مسافروں، مہاجریوں، انصاریوں اور بعد میں آنے
والے مسلمانوں پر صرف ہو گی، چونکہ علاقہ فدک بھی فی تھا اس لئے اس کی آمدن کے
مصارف بھی یہی تھے، اب خود غور کرنا چاہئے کہ جس مال میں اتنے لوگوں کا حق ہوا س
میں رسول اللہ ﷺ کی وراثت کیسے جاری ہو گی، وراثت تو تب جاری ہو گی جب کوئی مال
کسی کی ذاتی ملکیت ہو، اللہ تعالیٰ نے فدک کو رسول اللہ کی ذاتی ملکیت قرار نہیں دیا، یہ
وقف عام تھا اور وقف عام میں وراثت جاری نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ”کہ یہ
تمہارے اغذیا کا مال نہ ہو جائے“ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے موقف کی تائید
ہے۔ کیونکہ اگر فدک اہل بیت کی طرف منتقل کر دیا جاتا تو یہ نسل درسل اہل بیت کے
صاحبان ثروت میں گردش کرتا اور یہ قرآن پاک کی صریح مخالفت ہوتی، اسی وجہ سے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فدک کو اپنی ذاتی ملکیت بھی قرار نہیں دیا، انہوں نے اس
کی آمدن کو اہل بیت اطہار اور عام مسلمانوں کی ضروریات پر خرچ فرمایا، آپ کا ارشاد
ہے، میں اس کی آمدن کو انہی مصارف پر خرچ کروں گا جن پر رسول اللہ ﷺ خرچ کرتے
رہے، اور میں اس خرچ میں سے کسی چیز کو کم نہیں کروں گا، مجھے ذر ہے کہ اگر میں نے کسی
چیز کو کم کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، (بخاری: ۳۳۵) ان کے بعد حضرت عمر فاروق، حضرت
عثمان غنی اور بالخصوص حضرت علی الرضا رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے بھی فدک
کو قومی ملکیت ہی قرار دیا۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا موقف غلط تھا تو حضرت علی
الرضا رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے اپنے ادوار خلافت میں کیوں نہ تبدیل

کیا، انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی وراثت کو کیوں نہ حقدار تک پہنچایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی وراثت غصب کر کے ظلم کیا ہے تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور ان کے شہزادے نے بھی اولاد فاطمہ کی وراثت غصب کر کے ظلم کیا ہے؟ حضرت زید بن علی رضی اللہ عنہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، آپ فرماتے ہیں، اگر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جگہ ہوتا تو فدک کے متعلق وہی موقف اختیار کرتا جو آپ نے کیا تھا، (سنن کبریٰ ہدیۃ النبی ۲۰۲۶) معلوم ہوا کہ خاندان اہل بیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فیصلے سے بالکل راضی تھا اور ایک دینی مسئلہ واضح ہو جانے کے بعد ان سر اپا خلوص لوگوں کے بارے میں یہ خیال رکھنا کہ وہ قدس تعالیٰ کی جنتوں کے وارث ایک چھوٹے سے گوشہ زمین پر ہمیشہ کے لئے ناراض ہو گئے تھے، سراسر ناصافی ہے اور عظمت آل رسول کے منافی ہے،

یہاں ایک اہم اشکال جنم لیتا ہے کہ جب قرآن و ایک اہم اشکال کا جواب حدیث کے تمام دلائل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے موقف کی تائید کر رہے ہیں تو پھر حضرت خاتون جنت اور دیگر افراد اہل بیت نے مال فدک کا مطالبہ کیوں کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث ﷺ لانورث ﷺ کا حکم حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا اور دیگر افراد اہل بیت کے نزدیک عام نہیں تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ کے تمام مت روکات کو شامل ہو، اس لئے انہوں نے مطالبہ کر دیا، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس کا حکم عام تھا اور آپ کے تمام مت روکات کو شامل تھا اس لئے انہوں نے وراثت جاری کرنے سے انکار کر دیا، یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا۔

جس میں ایک مجتہد کا دوسرے مجتہد کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں، کیونکہ بعض مسائل میں اجتہادی اختلاف حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمۃ

الزہرا رضی اللہ عنہا کے درمیان بھی واقع ہوا ہے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا ان سے ناراض بھی ہوئی ہیں، مثلاً صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت علیؓ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام دیا، اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، فاطمہ مجھ سے ہے اور مجھے خوف ہے کہ وہ کسی دینی امتحان میں پڑ جائے گی، پھر آپ نے بنو عبد الشہس سے اپنے داماد (عاص بن ربع) کی تعریف کی کہ اس نے مجھے سے سچ کہا اور وعدہ پورا کیا، میں کسی حلال کو حرام نہیں کرتا اور نہ حرام کو حلال کرتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم رسول اللہ کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں، (صحیح بخاری ۳۳۸، ابو داؤد) کی روایت میں ہے کہ علی میری بیٹی کو طلاق دے دیں تو پھر اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ میری بیٹی میرے جسم کا نکڑا ہے، جو چیز اسے بے قرار کرتی ہے وہ مجھے بھی بے قرار کرتی ہے اور جو چیز اس کو تکلیف دیتی ہے مجھے بھی تکلیف دیتی ہے، (سنابی داؤد) حضرات شیعہ نے بھی اس سے ملتا جلتا واقعہ بیان کیا ہے جس میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر کاشانہ نبوت میں آگئی تھیں، (جامع العومن ۲۱۲) یہ اختہادی اختلاف ہے، اس سے اگر حضرت علی الرضاؓ بری الذمہ ہیں تو حضرت ابو بکر صدیقؓ کیوں نہیں؟ جس طرح حضرت فاطمۃ الزہراؓ حضرت علی الرضاؓ سے راضی تھیں اس طرح حضرت ابو بکر صدیقؓ سے بھی راضی تھیں، دراصل مطالبه ذکر کے بعد آپ نے گوشہ نشینی اختیار فرمائی اور اپنے والدگرامی حضور سید العرب والجم جعفر بن ابی ترابؓ کے فرقاً میں ہر قسم کے دنیوی معاملات کو یکسر ترک کر دیا تو راویوں نے یہ سمجھ لیا کہ آپ حضرت صدیق اکبرؓ سے ناراض ہو گئی تھیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں تھا جیسا کہ ایک شیعہ عالم کمال الدین بحرانی نے بھی رقم کیا ہے:

”حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی گفتگو سننے کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے کہا،

اے تمام عورتوں کی سردار اور خیر العباد کی لخت جگر! اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ ﷺ کے حکم سے ذرا تجاوز نہیں کیا، میں نے صرف آپ کے حکم پر عمل کیا ہے، آپ فذک کی آمدن سے اپنی خوراک حاصل کرتے اور باقی حقداروں میں تقسیم فرمادیتے تھے، اس آمدن سے جہاد کی سواریاں تیار کرتے تھے، میں اللہ تعالیٰ کو خاص من بنانے کر کہتا ہوں کہ میں بھی اس آمدن کو اسی طرح خرچ کروں گا جس طرح رسول اللہ ﷺ نے خرچ کرتے تھے، اس وضاحت پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا راضی ہو گئیں اور اس پر عمل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا، (شرح نجح البلاغہ ۱۰: ۷)

اس طرح کی حدیث امام تیجی نے بھی بیان کی ہے جس میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی رضا مندی کا ثبوت ہے، پھر اسکی روایات بھی تمام مکاتب فلک کی کتابوں میں درج ہیں جن سے خاندان اہل بیت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلقات کے حقائق موجود ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو آخری غسل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے دیا تھا، ان کا جنازہ بھی انہوں نے تیار کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی تھی، یہاں اہل خلوص کو ناراضی کی کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی، وہ تمام لوگ ﴿رحماء یعنیہم﴾ کی عملی تفسیر تھے اور ﴿فالف بین قلوبكم﴾ کی حسین تعبیر تھے۔

ہم یہاں یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ یہ کوئی واحد اختلاف نہیں تھا جو حضرت ابو بکر اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے درمیان رونما ہوا۔ صحابہ کرام کے درمیان فقہی، علمی اور اجتہادی مسائل میں اختلافات ہوتے رہتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کئی مسائل میں صحابہ کرام کا اجتہادی اختلاف تھا، جس طرح حضور اقدس ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اذیت کو اپنی اذیت قرار دیا ہے اس طرح حضرت عائشہ

رضی اللہ عنہا کی اذیت کو بھی اپنی اذیت قرار دیا ہے، ہمارا سوال ہے کیا صحابہ کرام بالخصوص حضرت علی المرتضی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اجتہادی اختلاف کر کے رسول اللہ ﷺ کو اذیت پہنچائی ہے؟ اس میں کسی ایک کا دوسرے کو اذیت پہنچانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لوگ سراپا خلوص تھے، ایک مسئلے کی تحقیق میں اگر کوئی اختلاف ہو جاتا تو وہ بھی خلوص پر منی ہوتا تھا، جب دوسرے کی دلیل میں وزن دیکھ لیتے تو فوراً رجوع کر لیتے تھے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق علیہ السلام نے فرمایا، آج اگر علی علیہ السلام نے ہوتے تو عمر علیہ السلام ہلاک ہو جاتا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے جب حدیث رسول سے استدلال سننا اور خلیفہ برحق کے اخلاص قلبی پر منی جذبات دیکھے تو فوراً مطالبے سے دستبردار ہو گئیں، اب اس میں ناراضی والی کون ہی بات تھی، ان پاک بازانوں کے بارے میں اس طرح کی سوچ سے احتساب کرنا چاہئے،

بعض حضرات کا یہ وہم و گمان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک اور وہم کا ازالہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اس وقت فدک عطا فرمادیا تھا جب آیت کریمہ ﴿وَاتْ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَهُمْ لِعْنِي قَرَأَهُمْ دَارُوْلُ كُوْتُ عَطَا كَبِيْحَةَ، نَازَلَ هُوَيْ تَحْتِي، اس وہم کے متعدد جواب ہیں، اولاً، تمام مکاتب للمرکزی کتابوں سے ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے فدک کو رسول اللہ ﷺ کی وراثت سے لینے کا مطالبہ کیا تھا اور وراثت اسی مال میں جاری ہوتی ہے جو کسی کو ہبہ نہ کیا گیا ہو لہذا امطالبہ میراث سے دعویٰ ہبہ باطل ہو گیا، (شرح مسلم: ۵: ۲۲۳) ثانیاً، حضور اقدس ﷺ نے سات ہجری میں فدک کو حاصل کیا اور یہ زمانہ مسلمانوں پر نہایت تلتقا، اس صرفت و افلاس کے عالم میں بہت سے لوگوں کو کئی دن کھانا میسر نہ آتا تھا، پھر جہاد کی تیاری کے لئے، اہل اسلام کی کفالت کے لئے اور اسلام کی اشاعت کے لئے بھی کافی سرمایہ درکار تھا، اس حالت میں

چوبیس ہزار یا ستر ہزار دینار کی سالانہ آمدن کو صرف حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے
حوالے کر دینا عقل و نقل کے خلاف معلوم ہوتا ہے، پھر آپ کے سیرت نبویہ بھی زمانے
کے سامنے روشن ہے کہ آپ اپنے خاندان کیلئے دنیا کا مال وزر ہرگز پسند نہیں کرتے تھے،
ایک مرتبہ خود حضرت فاطمۃ رضی اللہ عنہا نے آپ سے ایک کنیز کا مطالبہ کیا تو آپ نے تسبیح
پڑھنے کی تلقین فرمائی اور ایثار و قربانی کا درس دیا۔ مثلاً، اگر ستر ہزار دینار کی آمدن والا
علاقہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو عطا کر دیا گیا تھا تو آپ کو چاہئے تھا کہ غزوہ جبکہ
جیسے عمرت انگیز معرکے میں ہزاروں دینار رسول اللہ ﷺ کے حضور پیش کرتیں اور آپ کی
دریادی سے اسی سخاوت کی توقع کی جاتی ہے، مگر کسی روایت سے کوئی ایسا واقعہ ثابت نہیں
ہوتا، رابعاً، مذکورہ آیت کریمہ کے نازل ہونے پر عطائے فدک کا دعویٰ اس لئے بھی غلط
ہے کہ یہ آیت کریمہ مکی ہے اور مکہ میں فدک کہاں، مکمل آیت میں مسکینوں اور مسافروں کو
بھی کچھ عطا کرنے کا حکم ہے تو چاہئے تھا کہ ان کو بھی کچھ عطا کرتے تاکہ تمام آیت پر عمل
ہو جاتا لیکن ان کو عطا کرنے کا ذکر تک نہیں، خاماً، اس آیت کریمہ کے نازل ہونے پر
عطائے فدک کے ثبوت کیلئے ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی
تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاطمۃ کو جلایا اور فدک عطا فرمادیا۔ (کشف الاستار: ۳: ۵۵)

اس روایت میں عباد بن یعقوب، ابو بیحییٰ تیسی، فضیل بن مرزوق، عطیہ اور ابو
سعید کلبی جیسے راوی ہیں جو ضعیف اور شیعہ ہیں، اس کا ثبوت اسماء الرجال کی کتابوں میں پایا
جاتا ہے لہذا یہ روایت ناقابل اعتبار ہے، چنانچہ یہی حقیقت ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
نے فدک اپنے خاندان کے کسی فرد کو عطا نہیں فرمایا تھا، یہ تمام اہل اسلام کے لئے وقف
تھا، اسی پر تمام خلفائے راشدین اور صحابہ و تابعین کا اتفاق ہے۔ اور اس پر حضرت فاطمۃ
رضی اللہ عنہا کی رضا کے نقوش ثابت ہیں ہے

حضرت سیدنا صدیق اکبر رض کا مسئلہ کام ردانہ وار مقابلہ خلافت پر رونق افروز ہوئے تو ایک دم بہت سے مسائل وحوادث نے یلغار کر دی مگر تا سید ایزدی، رحمت مصطفوی، فراست فاروقی، دولت عثمانی اور ضربت حیدری آپ کے ہمراہ تھی، آپ ہرمیدان میں ثابت قدم رہے، حضرت علی المرتضی رض کا فرمان بالکل درست ہے کہ واقعی ابو بکر صدیق رض ہم تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے زیادہ بہادر انسان تھے، تاریخ عالم حیران اور ششدہر ہے کہ دو سال کے قلیل عرصے میں اتنے تند و تیز طوفانوں کا خاتمه کرنے کے بعد قیصر و کسری جیسی عظیم طاقتیں کو لکارنا اس نائب مصطفیٰ کا تاریخ ساز کارنامہ ہے۔ ذیل میں ان مسائل وحوادث کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان کے تدارک کے لیے آپ کے عملی اقدام کی ولولہ انگیز داستان رقم کی جاتی ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں تمام عرب نے قبائل عرب میں شورش اسلام قبول کر لیا تھا لیکن دور دراز کے قبائل کے سینوں میں ابھی اسلام کا رسوخ نہیں ہوا تھا کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، جب ان قبائل کو وصال رسول کی خبری تو وہ سلطنت مدینہ کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو گئے، اس شورش کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی ایک مرکز کے ماتحت جمع ہو کر یہ منظم زندگی ببر کرنے کو اپنی آزادی اور خود اختاری کے منافی سمجھتے تھے، خصوصاً زکوٰۃ کی ادائیگی کو وہ غلامی اور محکومی کی علامت تصور کرتے تھے، لہذا انہوں نے موقع ملتے ہی مرکز اسلام سے انحراف کر دیا، قبائل عرب کے درمیان سیاسی اتحاد کا زبردست فقدان تھا، یہی فقدان ان کے ارتدا کا باعث بن گیا، عرب میں یہود اور نصاریٰ بھی آباد تھے جو روز اول سے اہل اسلام کی ترقی کے شدید مخالف تھے، انہوں نے بھی قبائل کو فتنہ پردازی پر خوب مائل کیا اور اپنا انتقام

لینے کی کوشش کی، ان باغی عناصر کو بیرونی مالک نے بھی امداد فراہم کی جس سے وہ مزید منہ زور ہو گئے کہو ان اسباب پر نائب رسول حضرت ابو بکر صدیق رض کی گہری نظر تھی چنانچہ آپ نے حضرت اسامہ بن زید رض کے لشکر کو موت کے شہدا کا انتقام لینے کے لئے روانہ فرمادیا، یہ لشکر خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرما چکے تھے مگر آپ کے وصال کی جان کا ہ خبر سن کر یہ لشکر راستے سے ہی واپس آگیا تھا، آپ نے سب سے پہلے اس کی روائی کا حکم صادر فرمایا تو حضرت عمر فاروق رض جیسے جری انسان نے بھی مخالفت کی، آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر مدینہ میں اتنا سناٹا چھا جائے کہ درندے آکر میری ٹانگ میں نوچیں تو میں پھر بھی اس مہم کو نہیں روک سکتا جس کی روائی کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، جب امیر لشکر کی تبدیلی کا سوال ہوا تو فرمایا، اے ابن خطاب تیری ماں اولاد سے محروم ہو جائے کیا میں اس شخص کو لشکر کی امارت سے معزول کر دوں جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مامور فرمایا تھا، پھر آپ اس لشکر کو الوداع کہنے کے لئے شہر سے باہر تشریف لے گئے، لشکر اسلام کا انیس سالہ سالار گھوڑے پر سوار تھا اور آپ اس کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے، سالار لشکر حضرت اسامہ رض نے عرض کی، اے خلیفہ رسول ! اللہ کی قسم آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں یا مجھے بھی اترنے کی اجازت دیں، آپ نے جواب دیا، نہ میں سوار ہوں گا اونچے ہیں پیادہ چلنے کی دعوت دوں گا، اگر میں ایک لمحہ راہ خدا میں اپنے قدم خاک آ لود کروں تو میری شان میں کیا فرق پڑے گا، آپ واپس ہونے لگے تو اہل لشکر سے یوں خطاب فرمایا،

”میں تم کو دس باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، خیانت، فریب اور عہد نکنی سے بچنا، کسی کی لاش کو نہ بگاڑنا، عورتوں بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، بھیز، بکری یا گائے، اونٹ کو کھانے کے علاوہ ذنبح نہ کرنا، پھل دار درختوں کو نہ

کاشنا، آبادیوں کو تباہ نہ کرنا، خانقاہوں کے راہبوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا، لوگ قسم قسم کے کھانے تمہارے پاس لا میں گے، ان کو اللہ کا نام لے کر کھانا، اطاعت گزاروں کے جان و مال کا احترام کرنا اور میدان جنگ سے پیٹھنہ پھیرنا، (ترمذی، طبری)

یہ لشکر جرات و شجاعت کے گھرے نقوش چھوڑتا ہوا روانہ ہوا اور خدا تعالیٰ کی حکمت و قدرت سے جنگلوں اور صحراؤں کو عبور کرتا ہوا سخت گرمی کے موسم میں بیس روز بعد بلقا پہنچ گیا، حضرت اسامہ نے فوج کے مختلف دستوں کو آبل اور قضاudem کے قبائل پر دھا وابولنے کے لئے روانہ کیا، ان جنگلوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں بے شمار رومنی قتل ہوئے اور کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا، اس طرح وہ حضرت جعفر، حضرت زید اور حضرت ابن رواحد کا انتقام لینے میں کامیاب ہو گئے، یہ لشکر تقریباً چالیس دنوں میں واپس لوٹ آیا، اس لشکر کی روائی سے مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ ہوا مگر وہ بے شمار فوائد و ثمرات سے مالا مال ہو گئے، سب سے بڑھ کر یہ کہ قبائل عرب پر سلطنت مدینہ کی قوت و ہیبت کی دھاک بینھنگئی، انہیں یقین کامل ہو گیا کہ رسول اللہ ﷺ کے وصال با کمال کے بعد بھی زمام اقتدار ایک اولو العزم انسان کے ہاتھ میں ہے، لمبہڈا اہل اسلام کوئی تر نوالہ ثابت نہیں ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فراست و ہمت کے قابل ہو گئے نیز اطاعت رسول کی برکتوں پر ان کا یقین اور مسحکم ہو گیا، قیصر و کسری کی طاقتوں اور یہود و نصاریٰ کی سازشوں کو بھی شدید دھچکا لگا اور وہ آپ کی شخصیت سے خوفزدہ ہو گئے، قبائل عرب کی شورش کو فرو کرنے کیلئے آپ نے بہادر جرنیلوں کی قیادت میں لشکر تیار کئے جنھوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔

منکر یہ زکوٰۃ کا احتساب کچھ قبائل ایسے بھی تھے جو اسلامی حکومت کے

وفادار تھے مگر انہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا، جہاں تک کہ طیہہ اسدی کا بھائی فوج لے کر ذوالقصہ کے مقام پر آگیا اور ایک وفد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ ان کو زکوٰۃ جیسے فریضے سے آزاد کر دیا جائے، منکرین زکوٰۃ کے نازک ترین مسئلے میں اکثر صحابہ کرام بھی بہت پریشان تھے، ان کی رائے تھی کہ وہ توحید و رسالت کے قائل ہیں، صرف زکوٰۃ کی وجہ سے ان کے خلاف عسکری مہم کا آغاز کرنا مناسب نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے خلیفہ رسول، ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیجئے آپ نے یہ جملہ سن کر فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، تم جاہلیت میں بڑے سخت تھے، مسلمان ہو کر اتنے کمزور ہو گئے ہو، وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، کیا میری زندگی میں اس کی کافی چھانت کی جائے گی، اللہ کی قسم اگر وہ زکوٰۃ میں رسی کا ایک ٹکڑا بھی دینے سے انکار کریں گے تو میں ضرور ان کے خلاف جہاد کروں گا، آپ نے اس عزم صمیم کو عملی جامہ پہنانے کے لئے بنی عیسیٰ اور بنی ذیبیان کے خلاف تیار ہونے والے لشکر کی خود قیادت فرمائی، لوگوں نے بہت روکا کہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے مگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سکینت قلبی کا انعام پانے والا یہ مرد کامل اپنے فیصلے پر ڈیا تارہا، آپ کی جوانمردی اور بلند ہمتی کے سامنے قبائلی حیلہ پرستوں کے حوصلے جواب دے گئے، چنانچہ چند دنوں میں ہی تمام قبائل نے زکوٰۃ ادا کر دی، بعض نے خود مدینہ شریف میں حاضر ہو کر جمع کر دی۔ اگر منکرین زکوٰۃ کے خلاف آپ اسقدر استقامت کا مظاہرہ نہ کرتے تو لوگ آہستہ آہستہ صوم و صلوٰۃ سے بھی برگشتہ ہو جاتے اور دین فطرت ایک بار پھر جاہلیت کی تاریک وادی میں گم ہو جاتا، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

”رسول ﷺ کے بعد ہم ہلاکت کے قریب پنج چکے تھے مگر اللہ تعالیٰ

کی رحمت حضرت ابو بکر کی صورت میں نمودار ہوئی، انہوں نے ہمیں دشمنان

دین کے خلاف جمع کر کے صحف آرا کیا، اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوتے تو ہم مٹ
چکے ہوتے، (آفیٰ تہذیب: ۳۰)

حضور اقدس رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی میں ہی کچھ مدعاں
مدعاں نبوت کا خاتمه نبوت پیدا ہو گئے تھے، مسیلمہ کذاب، اسود غنی، طلحہ بن
خویلد وغیرہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو عورتوں میں سے قبیلہ بنی تمیم کی عورت سجاد بنت خویلد
نے بھی نبوت کا اعلان کر دیا، بعد ازاں اس نے مسیلمہ کذاب سے شادی کر کے اپنے
پیروکاروں کی تعداد میں کافی اضافہ کر لیا، موت کی مہم کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
نے مدعاں نبوت کے خاتمے پر توجہ دی اور اس عظیم مشن کے لئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ
جیسے بہادر جرنیل کو صحابہ کرام کے لشکر کی قیادت عطا فرمائی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے سب
سے پہلے طلحہ کی جماعت پر حملہ کیا اور اس کے پیروکاروں کو قتل کر دیا۔ طلحہ پنج کرشام کی
طرف بھاگ گیا اور تجدید اسلام کر کے مسلمان ہو گیا، اس کے بعد آپ مسیلمہ کذاب
کے خلاف جنگ یمامہ کے لئے روانہ ہوئے، ان سے پہلے دو جرنیل حضرت عکرہ رضی اللہ عنہ
اور حضرت شرجیل بن حنسہ رضی اللہ عنہما کام ہو چکے تھے، اس لئے مسیلمہ کذاب کے لشکر کے
حوالے بلند تھے، اوہ مسلمان بھی ختم نبوت کے پروانے بن کر اپنے سب کچھ قربانی کرنے
کے لئے بے قرار تھے، کذاب کے لشکر میں چالیس ہزار افراد تھے جبکہ مسلمانوں کی تعداد
تیرہ ہزار تھی، میدان یمامہ میں حق و باطل کا یہ معزکہ گرم ہوا تو شروع میں کذاب کا پلہ
بھاری رہا اور مسلمانوں کی جمیعت پریشان ہونے لگی، قریب تھا کہ مسلمانوں کے قدم
اکھڑ جاتے، حضرت قیس بن ثابت، حضرت زید بن خطاب، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ
اور حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ جیسے شیردل صحابہ نے رجزیہ کلمات کے ساتھ باطل کے
ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا، ان کے متاثرہ وارثوں سے محمدی شیروں کا الہ گرم ہونے

لگا اور وہ اپنے قائد کے پرچم تلے آگے بڑھتے چلے گئے، اس قیامت خیز گھری میں حضرت خالد بن ولید رض نے کمال وارثگی کے ساتھ "یا محمد اہ یا محمد اہ" کا نعرہ لگایا تو محبوب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کی برکات کے نزول سے صحابہ کرام سیل روان کی طرح باطل کے خس و خاشاک کو بہا کر لے گئے، اس طرح جنگ کی بساط الٹ گئی، مورخین لکھتے ہیں، مسیلمہ کذاب نے ایک باغ میں پناہ لی جس کے قرب و جوار میں اس کے دس ہزار شکری واصل جہنم ہو چکے تھے، بالآخر حضرت وحشی کے ایک ہی وار سے اس جھوٹے مدعا نبوت کا خاتمہ بھی ہو گیا اور مسلمان اپنے آقا کی ختم نبوت کے حضور سرخ رو ہو گئے۔ اس باغ کو "حدیقة ملحوظ" کا نام دیا گیا ہے، سجاجح کی سرکوبی کے لئے مسلمان بن حمیم پہنچے تو اسے غائب پایا، بن حمیم نے اطاعت قبول کر لی اور مشرف پہ اسلام ہو گئے، حضرت خالد نے ان کو معاف کر دیا، سجاجح فرار ہو کر بصرہ پہنچی اور چند روز بعد مر گئی۔ اس کارنامے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رض نے بحرین، عمان اور مہرہ کے مرتدوں کے خلاف بھی مہماں کا آغاز کیا، ان مہماں کی قیادت کے لئے حضرت علاء حضری، حضرت عمر و بن العاص رض اور حضرت عکرمہ رض کو تیار کیا، ان حضرات نے اپنے اپنے اہداف کو خوب بہادری کے ساتھ نشانہ بنایا، مرتدوں کو ٹکست دی اور بے شمار مال غنیمت لے کر واپس آئے۔ یمن اور حضرموت کے مرتدوں کو بھی صحابہ کرام نے کچل کر رکھ دیا، اس طرح تمام جزیرہ عرب پر مسلمانوں کی شوکت و عظمت کے پرچم لہرانے لگے،

جمع قرآن کا فریضہ مسیلمہ کذاب کے خلاف ہونے والی جنگ میں بارہ سو دان اور ستر حفاظ کرام بھی تھے، اتنے بڑے قومی الیے کو محسوس کرتے ہوئے حضرت فاروق اعظم رض نے مشورہ دیا کہ پورے قرآن حکیم کو صفحات میں محفوظ کر لیا جائے، اگر

یہ فریضہ سرانجام نہ دیا گیا تو قرآن حکیم کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو سکتا ہے، صحیح بخاری شریف میں ایک روایت موجود ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

”حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے جنگ یمامہ کے بعد طلب فرمایا، میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، آپ نے مجھے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ ہے کہ جنگ یمامہ میں بہت سے قرآن اور حفاظ شہید ہو چکے ہیں، اگر دیگر جنگوں میں ایسے ہی شہید ہوتے رہے تو بہت سا قرآن ضائع ہو جائے گا، لہذا امیری رائے ہے کہ جمع قرآن کا حکم دیا جائے، میں نے حضرت عمر کو جواب دیا کہ جس کام کو رسول اللہ ﷺ نے نہیں کیا، وہ کام ہم کیسے سرانجام دیں گے، حضرت عمر نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ بہت ضروری کام ہے اور یہ کہ حضرت عمر میرے ساتھ اس معاملے میں اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لئے میرا سینہ کھول دیا اور میری رائے حضرت عمر کی رائے کے مطابق ہو گئی، پھر آپ نے مجھے فرمایا، تم جوان اور دانشور ہو، ہم تم پر کوئی تہمت نہیں لگاسکتے، پھر یہ کہ تم کا تب وہی بھی ہو، لہذا تم قرآن حکیم کو ایک جگہ جمع کرنے میں مصروف ہو جاؤ، خدا کی قسم یہ کام کسی پہاڑ کو منتقل کرنے سے بھی زیادہ مشکل تھا، میں نے ان سے اصرار کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی کھول دیا جس طرح حضرت ابو بکر اور عمر کا کھولا تھا، چنانچہ میں قرآن حکیم کو بھجو رکی چھالوں، پھر کی تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے جمع کرتا رہا، یہ صحیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، ان کے وصال کے بعد ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہا،“

اس صحیفے کو بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تمام بلا و اسلامیہ میں پھیلا دیا اور تمام امت آج تک اسی صحیفے پر متفق اور متحد ہے، قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کرنا اور پھر اس صحیفے پر تمام امت کو اکٹھا کرنا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔

صدیق اکبر کی فتوحات ورسوخ پوری دنیا میں جاری تھا۔ مملکت ایران کا باادشاہ کسری کے لقب سے اور مملکت روم کافر مانرواقیصر کے لقب سے مشہور تھا، ایران کی سرحدیں افغانستان ترکستان اور روم تک پھیلی ہوئی تھیں، اس کے باشندے متعدد اور صنعت و حرفت میں ترقی یافتہ تھے، وہ سب ہاگ کی پوجا کیا کرتے تھے، ایران اور عرب کے درمیان عراق کا علاقہ ہے جس کا دار الحکومت حیرہ تھا، روم بھی بہت بڑی مملکت تھی، جس کا نامہ بہ عیسائی تھا۔ بلقان، ایشیا کو چک، لبنان، شام، فلسطین، مصر، طرابلس، الجزاير، بحر روم کے جزائر اور عرب کے سرحدی قبائل مملکت روم کے ماتحت تھے، روم کا دار الحکومت قسطنطینیہ تھا جہاں باز نظینی خاندان کے حکمران حکومت کرتے آرہے تھے، یہ دونوں بڑی طاقتیں آپس میں بر سر پیکار رہتی تھیں اور ایک دوسرے کے باشندوں پر ظلم و تم کے پہاڑ توڑتی رہتی تھیں، ان باشندوں کو کسی ایسے سربراہ کی ضرورت تھی جو انہیں امن و سکون کا پیغام دیتا، چنانچہ رحمت باری نے امداد فرمائی تو انہیں اسلام کے دامن میں زندگی بسرا کرنے کا موقع نصیب ہو گیا۔

فتح عراق کا نظارہ اب انہیں اس بات کا خیال تھا کہ اپنی سرحدوں کو مضبوط بنایا جائے، کیونکہ ایرانیوں کو جب بھی موقع ملے گا وہ عربوں پر حملہ کر دیں گے، اس اثناء میں ایرانی مملکت کمزور ہو گئی، اس کا جابر و قاہر حکمران پرویز خسرو مر چکا تھا، اس کے بعد یکے

بعد دیگرے تین بادشاہ تخت نشین ہوئے، ایسے حالات میں ایران کے پڑوی عرب قبائل کو دیرینہ انقام لینے کا موقع مل گیا جو ہمیشہ سے ایرانیوں کے جبرا و استھمال کا نشانہ بنتے رہتے تھے، عراق کے عرب قبیلہ والل کے سردار حضرت شیعی بن حارثہ شیبانی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عراق پر با قاعدہ حملہ کرنے کی اجازت طلب کی اور خصوصی امداد مانگی، ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مرتدین عرب اور مدعاوین نبوت کی گوشہ مانی سے فارغ ہوچکے تھے، اس لئے انہیں اٹھارہ ہزار کے لشکر اسلام کے ساتھ فتح عراق پر مأمور فرمایا گیا، ساتھ ہی نصیحت فرمائی،

”کسی عرب مزارع کو قیدی نہ بنایا جائے اور نہ اسے مارا جائے، نہ کوئی نقصان پہنچایا جائے، وہ بھی تمہارے جیسے عرب ہیں جو مدت سے اہل ایران کے ظلم کا نشانہ بننے ہوئے ہیں، ان سے انصاف کا سلوک کیا جائے“
 حضرت خالد نے جاتے ہی پائقیا اور بار سوایا کے حاکموں کو اطاعت گزار بنالیا، پھر ابلہ پہنچے اور عراق کے ایرانی حکمران ہر مرکوز خط لکھا کہ تم اسلام قبول کر لو یا جزیہ دو یا لڑائی کے لئے تیار ہو جاؤ، یا درکھو تمہیں ایسی قوم سے لڑنا پڑے گا جو سوت کو اتنا ہی عزیز رکھتی ہے جتنا تم زندگی کو عزیز رکھتے ہو، ہر مرکوز نے یہ خط ایران کے بادشاہ کو ارسال کر دیا اور خود حضرت خالد کے مقابلے میں اتر آیا، میدان کا ظہر میں دونوں لشکر آئنے سامنے ہو گئے، ہر مرکوز کی فوج نے اپنے قدموں کو آہنی زنجیروں سے باندھ رکھا تھا کہ میدان جنگ سے کوئی فرار نہ ہو سکے، مسلمانوں نے اس بہادری اور پامردی سے جنگ کی کہ زنجیروں کے بھی نکڑے اڑا دیئے، اس جنگ کو جنگ سلاسل بھی کہتے ہیں، ایرانی لشکر کے قدم اکھڑ گئے اور وہ اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے، مسلمانوں نے دریائے فرات کو پار کر کے بھی ایرانیوں کا تعاقب جاری رکھا اور بڑے پل تک پہنچا کر دم لیا، اس جنگ کے پر شہر

بصرہ آباد ہے، ہر مزماراً گیا اور مسلمانوں کو اتنا مال غنیمت ہا تھا آیا کہ ہر مجاہد کو ایک ایک ہزار درہم کی رقم دی گئی، حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کی فتح کی خبر سن کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے حضرت خالد کو ہر مز کی مرصع کلاہ عطا فرمائی جس کی قیمت ایک لاکھ درہم تھی، یہ ان کی بہادری کا انعام تھا، شاہ ایران نے ہر مز کی مدد کیلئے قارن نامی سپہ سلامہ کی سر کردگی میں ایک لشکر جرار بھیجا، اسے مقام ندا میں ہر مز کی شکست فاش کی خبر موصول ہوئی تو وہ وہاں ہی رک گیا، حضرت خالد بھی مقابلے کے لئے وہاں پہنچ گئے، مقام ندار میں خوب گھسان کارن پڑا، تو حیدور سالت کے متواالے یہاں بھی دل کھول کر لڑے اور قارن سمیت تیس ہزار سپاہیوں کو خاک و خون میں تڑپا گئے، اس جنگ میں ایران کے دو شہزادے بھی مارے گئے، مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت میسر آیا، انہوں نے دشمن کے مددگاروں اور سپاہیوں کو جنگی قیدی بنالیا، مزار عین کوز مینوں پر قابض کیا، وصول خراج کے لئے کارندے مقرر کئے نیز اگلی فتوحات کے لئے بھی تیاریاں شروع کر دیں، شاہ ایران ارڈشیر کو اپنی افواج کی ذلت آمیز برپا دی کا بہت افسوس تھا، اس نے غصبنما کہو کر بہمن کی قیادت میں ایک بہت بڑے لشکر کو تیار کیا، اس بار اس نے یہ چال چلی کہ عربوں کے مقابلے میں عرب قبائل کی امداد حاصل کی، چنانچہ عراق کی سرحد پر عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے عرب قبائل اور بنو بکر کے افراد جو اسلام دشمنی میں ہمیشہ سرگرم رہتے تھے، اپنے ساتھ ملا لئے، بہمن ایران کا ممتاز اور بہادر ترین جرنیل تھا، حضرت خالد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر مقابلے میں اترے، یہ دلجه کا میدان تھا، آپ نے لشکر کا ایک حصہ شب میں چھپا دیا، جب معرکہ گرم ہوا تو چھپے ہوئے تازہ دم حصے نے اس زور سے حملہ کیا کہ ایرانیوں کے سامنے قیامت ناپنے لگی، وہ سمجھئے کہ مسلمانوں کو تازہ کمک پہنچ چکی ہے لبذا میدان سے راو فرار اختیار کرنے میں تی عافیت

ہے۔ اس جنگ میں اہل اسلام کو بے پناہ مال غنیمت ہاتھ لگا اور لوگ خوشحال ہو گئے، مرکز میں بیٹھے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر اکابر صحابہؓ اپنے مجاہدوں کی کارکردگی سے بہت خوش تھے اور سراپا دعا گوتھے، حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر سے فرمایا، ”تمہارے سامنے ایران کی سر زمین ہے، یہاں جواہرات اس کثرت کے ساتھ ہیں، جس کثرت کے ساتھ عرب میں پھر ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، یہ لوگ ہمارے قیدی ہیں اور دنیا کی دولت ہمارے قدموں میں ہے، مگر ہمارا نصب الحین صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔“

آپ کے ان الفاظ نے مجاہدین کو شعلہ جوالہ بنادیا اور وہ اگلے میدانوں میں ایرانیوں کا شکار کھیلنے کے لئے بیقرار نظر آنے لگے، ادھر آتش پرستوں کا سینہ انتقام کی آگ سے جل رہا تھا، عیسائی عرب قبیلے بھی اپنی شکست فاش پر نقش حیرت تھے، ان سب دشمنان اسلام نے مل جل کر ایک بڑا لشکر تیار کیا اور حیرہ اور ابلد کے درمیان ”مقام الحیس“ پر اکٹھے ہو گئے۔ اس مرتبہ بہمن نے جا بان نامی جرنیل کو قیادت سونپی اور خود کسری کے پاس ہدایات لینے کیلئے چلا گیا، حضرت خالد رضی اللہ عنہ میدان الحیس میں پہنچ گئے، اس مرتبہ ایرانی اور عربی قبیلے مستقل مزاجی کے ساتھ لڑے، پھر ان کو یہ بھی توقع تھی کہ بہمن مرکز سے کم لے کر پہنچ جائے گا اور مسلمانوں کو شکست فاش ہو جائے گی، اس موقع پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اے اللہ اگر تو مجھے دشمنوں پر فتح عطا کرے تو میں کسی دشمن کو زندہ نہ چھوڑوں گا اور یہ دریا ان کے خون سے سرخ ہو جائے گا، پھر آپ نے لشکر کا حوصلہ بڑھا کر ایرانی لشکر کے عقب پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا، اس طرح ایرانیوں کی صفیل الٹ گئیں اور انہوں نے ہتھیار پھینک دیئے، آپ نے تمام فوج کو گرفتار کر کے حکم دیا کہ دریا کے کنارے تمام ایرانی قتل کر دیئے جائیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارا دریا خون سے سرخ ہو گیا، لہذا اسے ”خون کا دریا“ کہا

جانے لگا، تاریخ طبری میں ہے کہ اس جنگ میں ستر ہزار کافر مارے گئے تھے۔ اس جنگ نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی، مسلمان پیش قدیمی کرتے کرتے دریائے فرات کے کنارے امغیثنا شہر میں پہنچے جو بہت آباد اور پررونق تھا، لوگ شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، یہاں بھی بہت سامال غنیمت ہاتھ لگا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان فتوحات کی خبر سنی تو فرمایا کہ ”اب خالد بن ولید جیسا عظیم بہادر پیدا نہیں ہو سکتا“، اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے عرب قبائل کی طاقت کچلنے کا فیصلہ کر لیا کہ وہ دوبارہ ایرانیوں کی حمایت نہ کر سکیں، پھر انہوں نے شہر حیرہ پر حملہ کیا جو عیسائی عربوں کا دار الحکومت تھا، حاکم حیرہ شہر چھوڑ کر بھاگ گیا اور اہل شہر نے مسلمانوں سے صلح کر لی۔ آپ نے اہل شہر سے اس شرط پر صلح کی تھی کہ وہ ہر سال ایک لاکھ نوے ہزار درہ بم خرچ ادا کریں گے، اس معاهدے کے تحت مسلمان شہر کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے آپ نے اس شہر کو اپنا مرکز قرار دیا اور اہل شہر کی ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ گرد و نواح کے باشندوں نے بھی انہی شرطوں پر صلح کر لی، اس طرح حیرہ سے ابلہ تک چار سو میل کے علاقے پر اہل اسلام قابض ہو گئے، جنوبی عراق کے بعد آپ نے شمالی عراق پر توجہ دی اور انبار کے علاقے فتح کئے، اس دوران خبر ملی کہ ایرانی فوج عین التمر کے مقام پر جمع ہو رہی ہے، شاہ ایران کی طرف سے بہرام چوبیں کا بیٹا مہران عین التمر کا حاکم تھا، عیسائی عرب قبیلے بھی عقدہ کی قیادت میں اس کے ساتھ مل گئے، حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے عین التمر پہنچ کر جنگ شروع کی اور قبائل عرب کے سپہ سالار عقدہ کو گرفتار کر لیا، بعد ازاں اسے قتل کر دیا تو حمایتی قبائل کی حالت زار دیکھ کر مہران بھی میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، اس طرح مسلمانوں نے یہ قلعہ بھی فتح کر لیا، پھر آپ مختصر ساختکر لے کر دو متنہ الجند ل کی جانب روانہ ہوئے جہاں حضرت عیاض بن غنم کفر کے ساتھ لڑ رہے تھے، ان دونوں سالاروں نے اس نہایت اہم شہر کو فتح کیا اور علاقوں پر علاقے زیر دز بر کرتے ہوئے دوبارہ حیرہ پہنچ گئے، اس

کے بعد مسلمانوں نے ایک بہت بڑی جنگ فراض کے مقام پر لڑی جسمیں ایرانی، رومی اور سرحدی قبیلے ایک ساتھ اکٹھے ہو کر م مقابلہ ہوئے، یہ تحدہ لشکر دریائے فرات کو عبور کر کے نبرداز ماہوا تو مسلمان بھی برق خاطف کی طرح لپکے، اور اس بہادری کے ساتھ لڑے کہ دشمن کے ایک لاکھ آدمیوں کو لقمہِ اجل بنا کر دم لیا، اس شاندار فتح کے بعد حضرت خالد بن خیثہ آدھا لشکر لے کر شام کے محاذ پر روانہ ہو گئے کیونکہ انہیں حضرت ابو بکر صدیقؓ کا حکم موصول ہو گیا تھا کہ اب آپ جیسے عظیم انسان کی وہاں زیادہ ضرورت ہے۔ اہل ایران کے ساتھ حضرت شنی ابن حارثہ جہاد کرتے رہے اور ان کو کئی معروکوں میں شکست فاش سے دو چار کیا، اس دوران حضرت ابو بکر صدیقؓ کو خیلیہ نامزوں کی امداد کے لئے فوج بھیجنے کی خصوصی نصیحت فرمائی۔

فتح شام کا نظارہ ملک شام روم کی عیسائی حکومت کے ماتحت تھا، اس کی سرحدوں پر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ایک مقتدر صحابی حضرت خالد بن سعیدؓ کو مقرر فرمایا کہ آپ صرف عرب سرحدوں کی حفاظت کریں، رومیوں سے جنگ کرنے میں پیش قدمی نہ کریں، لیکن اگر رومی جنگ کریں تو مقابلہ کریں مگر تعاقب میں دور نہ جائیں، دراصل آپ ایک ہی وقت میں ایران اور روم سے جنگ چھیڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، ادھر رومیوں نے بنو غسان کو ساتھ ملا کر جنگ چھیڑ دی، حضرت خالد بن سعیدؓ بھی تیار تھے، مرکز کی اجازت ملتے ہی وہ مقابلے پر اتر آئے اور لڑتے لڑتے ملک کے اندر دوڑنک نکل گئے، جب چاروں طرف سے شامی قبیلوں نے گھیرا ڈال لیا تو ملک کے طلبگار ہوئے، حضرت عکرمہؓ اور حضرت ذوالکلامؓ کمک لے کر پہنچے مگر رومی لشکر نے مسلمانوں کو دمشق کی طرف

دھکیل کر عقب کے تمام ہر اسے بند کر دیئے اور روی جرنل ماہان نے مسلمان لشکر کو شکست سے دو چار کر دیا، اس جنگ میں حضرت خالد بن سعید رض کا ایک جینا بھی شہید ہو گیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رض کو اس شکست سے بہت دکھ ہوا مگر آپ کے کردار عزیمت میں کوئی فرق نہ آیا، اب آپ نے شام کی فتوحات کے لیے الگ الگ لشکر تشكیل دیئے اور اسلامیان عرب سے جہاد کی اپیل کی، آپ نے دمشق کے لیے یزید بن ابی سفیان، حمص کے لیے ابو عبیدہ بن جراح، اردن کے لئے شریعت بن حسنة اور فلسطین کے لیے عمرو بن العاص جیسے ہماں سور پہ سالاروں کو مقرر فرمایا، ان تمام فوجوں کی مجموعی تعداد تباہیس ہزار تھی، ادھر بر قل قیصر روم نے بھی حمص سے اپنے الگ الگ لشکر روانہ کیے تاکہ مسلمانوں کو جمع نہ ہونے دیا جائے۔ اس صورت حال کو دیکھ کر اسلامی پہ سالاروں نے ایک مرکز پر اکٹھے ہونے کے لیے بارگاہ خلافت سے اجازت اور مزید کمک طلب کی، حضرت ابو بکر صدیق رض نے انہیں دریائے یروم کے کنارے مناسب مقام پر جمع ہونے کا حکم صادر فرمایا اور ساتھ ہی حضرت خالد بن ولید رض کو ان کے ساتھ ملنے کا فرمان جاری کیا، لہذا وہ حضرت شعبان رض کو چھوڑ کر شام پہنچ گئے، یہ راستہ بہت خطرناک ریاستانوں پر مشتمل تھا جسے اہل اسلام نے اپنے بے خوف فائدے کے ساتھ جان پر کھیل کر عبور کیا۔ شام میں داخل ہوتے ہی انہوں نے بصری کے بطریق رض کو شکست فاش دی تو اہل بصری نے جزیرہ دینا قبول کر لیا، پھر وہ حضرت عمرو بن العاص رض کی مدد کے لیے اجتادیں چلے گئے، وہاں رومیوں کے ایک لشکر کو شکست دی، پھر وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رض کے ساتھ ملنے کے لیے یروم پہنچ گئے، یہ اتفاق کی بات تھی کہ روی جرنل ماہان اور حضرت خالد بن ولید رض کا ایک وقت میں فوجیں لے کر یروم پہنچے، دشمن کی فوج تعداد میں بہت زیادہ تھی لیکن ادھر مسلمانوں کے دل جوش ایمان سے ترپ رہے تھے، دو تین

ہفتے دونوں شکر میدان جنگ میں پڑے رہے، حضرت خالد چاہتے تھے کہ تمام شکر کو متحده محاڑ پر لڑائیں لیکن تمام دستوں کے سپہ سالا، لگ کلگ لڑنے پر مصروف تھے، جبکہ رومی ایک قائد کے تحت اکٹھے ہو چکے تھے، آپ نے اس موقع پر بہت ایمان افروز خطاب فرمایا، ”لوگو آج کی جنگ بہت اہم ہے، آج اخلاص کا دن ہے جسمیں فخر و غور ہرگز روانہ نہیں، اپنے جہاد کو تمام جذبوں سے پاک کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنا وہ کیونکہ آج کے بعد کبھی اتنا نازک وقت نہیں آئے گا، تم ایک منظم فوج کے ساتھ لڑنے جارہے ہو لیکن دستوں میں منقسم ہو، اگر خلیفة المسلمين کو خبر ہو جائے تو تمہیں اس طرح ہرگز نہ لڑنے دے، آج تمہیں وہ کام کر دینا چاہئے جس کا حکم نہیں دیا گیا“

تمام سپہ سالاروں نے آپ کے مدعا کو سمجھتے ہوئے ایک جگہ اکٹھے ہو کر آپ کی کمان میں لڑنے کی حاضری اور معز کے کے لیے تیار ہو گئے، اس جنگ میں حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے جن کو شکر اسلام میں چل پھر کر حوصلے بڑھانے پر متعین کیا گیا، یہ ۱۳ ھجری کا ایک دن تھا جب تمام نامور جرنیلوں کی بہادری کے جو ہر کھلنے والے تھے، رومیوں نے حملہ کیا تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ بھی اسلام کے سرفرازوں کے ہمراہ ڈٹ گئے، رومی جان توڑ کر لڑے اور فرار کی رسائی سے بچنے کے لیے ایک ایک کر کے جاہدوں کی تکواروں کا نشانہ بننے پلے گئے، حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن عکرمہ رضی اللہ عنہ نے اسی جنگ میں جام شہادت نوش کیا، ان کے علاوہ تین ہزار مسلمان شہید ہوئے جبکہ ایک لاکھ رومی سپاہی لقمہ اجل بنے، جنگ یہ موك تاریخ اسلام میں بہت اہمیت کی حامل ہے جس سے رومیوں کے دلوں میں ایرانیوں کی طرح اسلام کے بہادر سپاہیوں کا خوف بیٹھ گیا، بعد ازاں مسلمانوں کے متحده شکر نے دمشق جیسے تاریخی شہر کا محاصرہ کر لیا، یہ محاصرہ

پورے تین مہینے جاری رہا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہو گیا، یہ شہر اس دن سے آج تک اہل اسلام کے تصرف میں ہے،

ماہ جمادی الآخری ۱۳ھ کے آغاز میں آپ مرض صدیق اکبر کا وصال پاک الموت سے دو چار ہوئے۔ شدت مرض کی وجہ سے آپ نماز نہ پڑھا سکے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو امامت کا حکم دیا، پھر اپنے جانشین کے لیے صحابہ کرام سے شورہ فرمایا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کی، بے شک حضرت عمر اس منصب عظیم کے قابل ہیں لیکن وہ ذرا سخت انسان ہیں، آپ نے فرمایا، جب ان پر خلافت کی ذمہ داری ٹاند ہو گی تو خود بخود نرم ہو جائیں گے، آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے خلافت فاروقی کی مستاویں لکھوائی کہ میں نے اپنے کسی رشتہ دار کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا، بلکہ اس ہستی کا انتخاب کیا ہے جو تم تمام لوگوں سے بہتر ہے، پھر آپ نے دور خلافت میں بیت المال سے جتنا خرچ لیا تھا اس کا حساب کرایا تو آٹھ ہزار درہم نکلا، فرمایا میں اس رقم کے بدلتے اپنی فاصل زمین بیت المال کو عطا کرتا ہوں، نیز بیت المال سے ایک اوٹھی، ایک غلام اور پانچ درہم کا ایک کمبیل آپ کے پاس تھا، یہ چیزیں بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیں، ایشارہ کا یہ عالم دیکھ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے، الشدائعی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر رحم فرماتے، انہوں نے اپنے بعد آنے والوں کے نیے بہت ہی مشکل معیار قائم فرمایا ہے، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ جو کپڑا امیرے بدن پر ہے اسکو دھولیانا اور ساتھ دو اور کپڑے طاڑ ر مجھے کفن پہنانا، انہوں نے عرض کی یہ کپڑے تو پرانے ہیں، کفن نیا ہونا چاہیے، آپ نے فرمایا، زندہ لوگ، فوت شد، لوگوں سے زیادہ نئے کپڑوں کے متعلق ہیں، پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ تیار کر کے جوڑہ

مصطفے کے سامنے لے جانا اور اندر فن کرنے کی اجازت طلب کرتا، جب صحابہ کرام نے اس وصیت پر عمل کیا تو حجرہ مبارکہ میں موجود مزار محبوب سے آواز آئی۔ آج حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو بے شک حبیب اپنے حبیب کا مشتاق ہے، (খিচাচ্ছ কৰিণি ۲۹۲:۲)

یہ واقعہ حیات النبی کی روشن دلیل ہے۔ اللہ اللہ، یہ کتنی عظیم سعادت ہے کہ ساری عمر و فاداری اور جان شاری کا مظاہرہ کرنے والا محبوب کے ساتھ آرام فرمائے، قیامت کے دن بھی محبوب کے ساتھ ہوگا اور جنت کی ابدی زندگی بھی محبوب کے ہمراہ بسر کرے گا۔ آپ کا دور خلافت دو سال تین ماہ، دس دن کے عرصے پر صحیط ہے جس کی برکات و حسنات نے تا قیامت اہل اسلام کے قدم مضبوط کر دیئے۔ آپ کے وصال سے اسلامیان عرب میں غم و اندوہ کی تاقابل برداشت لہر دوڑ گئی اور ایک مرتبہ پھر فراق رسول کا زخم تازہ ہو گیا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے بہترین الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے،

☆.....”اے ابو بکر، اللہ آپ پر حرم فرمائے، آپ پہلے انسان ہیں جس نے رسول اللہ ﷺ کی صدائے حق پر لبیک کہا، ایمان اور اطاعت میں کوئی بھی آپ کا ہمسرنہیں اور اخلاق و محبت میں کوئی بھی آپ کے برابر نہیں“۔

☆.....حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم دونوں میرے دوست اور محبوب ہیں، دونوں ہدایت کے امام ہیں، اسلام کے بزرگ اور قریش کے مرد کامل ہیں، رسول اللہ ﷺ کے بعد دونوں کی پیروی لازم ہے جس نے ان کی پیروی کی وہ محفوظ ہو گیا اور جس نے ان کے فرمودات پر عمل کیا وہ سیدھے راستے پر گامزن ہوا، (تلخیص الثانی ۳۱۸:۳)

☆.....وہ دونوں عادل، منصف اور امام بحق تھے، دونوں حق پر رہے اور حق پر دونوں کا وصال ہوا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ دونوں پر اپنی رحمت

نازل فرمائے، (حقائق حق: ۱۶)

☆..... حضرت ابن صفوان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وصال ابو بکر پر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ روتے اور اناللہ پڑھتے ہوئے آئے، آپ کے جند خاکی کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے ابو بکر، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ سب سے پہلے اسلام لانے والے، ایمان میں سب سے زیادہ اخلاص والے، اللہ پر سب سے زیادہ یقین رکھنے والے، تمام لوگوں سے زیادہ غنا اور سخاوت والے، اللہ اور اس کے رسول کے پاس سب سے زیادہ رہنے والے، اسلام پر سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے، اصحاب کے لئے سب سے زیادہ باعث برکت، حسن طلب میں سب سے بڑھنے والے، مناقب میں سب سے آگے، پیش قدموں میں سب سے برتر ہونے والے، درجے میں سب سے اوپر، حضور کے سب سے زیادہ قریب رہنے والے، ہدایت اور حسن اخلاق والے اور زبان پر سب سے زیادہ قابو رکھنے والے، فضل میں حضور کے سب سے زیادہ مشابہ اور آپ کے نزدیک سب صحابہ سے زیادہ عزت و منزلت والے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو رسول اللہ ﷺ کی طرف سے اور تمام اہل اسلام کی طرف سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنا روئے جتنا وصال مصطفیٰ کے دن روئے تھے، سب لوگوں نے کہا، اے داماد رسول بے شک آپ نے سچ فرمایا، (مجموع الزوائد: ۹: ۳۷، منڈ بزار: ۲: ۳۸)

☆.....☆.....☆

باب نمبر 2

عاداتِ کرپٹ

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جمال صورت اور کمال سیرت کا حسین امترانج تھے، ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ آپ ہم سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سراپا اور حلیہ بیان فرمائیں تو حضرت صدیقہ نے فرمایا، آپ کا رنگ سفید تھا، بدن اکبر اتحا، دونوں رخسار اندر کو دبے ہوئے تھے، پیٹ اتنا بڑا اتحا کہ آپ کی لگنگی اکثر نیچے کھسک جایا کرتی تھی، پیشانی پر ہمیشہ پینہ رہتا تھا، چہرہ پر زیادہ گوشت نہیں تھا، ہمیشہ نظریں نیچی رکھتے تھے، پیشانی بلند تھی، الگلیوں کی جڑیں گوشت سے خالی تھیں یعنی گھائیاں کھلی رہتی تھیں، حنا اور کتم کا خضاب لگاتے تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ میں طیبہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کے بال سیاہ و سفید ملے ہوئے کچھ بڑی نہیں تھے، آپ ان بالوں پر حنا اور کتم کا خضاب لگایا کرتے تھے، (تاریخ الخلفاء: ۲۲) حضرت امام زہری کا بیان ہے کہ آپ کے بال مبارک گھنگھریا لے تھے، آپ کم خن اور رقيق القلب تھے، بہت چاک و چوبند تھے، آپ کی آواز رعب دار اور پر جلال تھی، (آفاقی تہذیب: ۲۲۲)

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اقدس ﷺ کے فیضان رسالت کا صدقہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ننان گوں عادات و خصائص سے مالا مال فرمایا اور ان کے مبارک تذکرے اپنے کلام لا یزال میں بیان کئے۔

حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے سخاوت تھے، جب صدیق اکبر کی سخاوت آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے پاس چالیس ہزار درہم یاد دینا رہتے، وہ سب کے سب چیزیں اسلام کے حکم پر خرچ کر دیئے، قرآن پاک میں ہے ﴿لَيْلَةً يَوْمَ مَالِهِ، يَتَرَكِّي هُوَ وَهَا أَنَّا مَالَ خَرْجَ كَرَتَاهُ كَهْ كَهْ پَاكَ ہو جائے، يَهْ آیَتْ مَقْدَسَةَ آپَ كَيْ شَانَ مِنْ نَازِلَ ہوئَ، او رَأَيْكَ جَلَّ فَرْمَانَ بَارِيَ ہے﴾ (ولَا يَاتِلُ اولُو الْفَضْلِ مِنْ كَمْ وَالسَّعْدَةِ) اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور وسعت والے ہیں، علامہ ابو علی طبری لکھتے ہیں، یہ آیت مقدسر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، (تفیریج مجمع البیان ۷: ۱۳۳) ایک اور جگہ فرمان باری ہے ﴿فَامَّا مَنْ اعْطَى وَاتَّقَى... هُوَ وَهَا جس نے مال دیا اور پرہیز گاری اختیار کی اور اچھی باتوں کی تصدیق کی تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کریں گے، علامہ ابو علی طبری لکھتے ہیں، حضرت ابن زبیر سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی کیونکہ آپ نے بہت سے غلام خرید کر آزاد کئے تھے، (تفیریج مجمع البیان ۱۰: ۵۰۱) ایک اور مقام پر فرمان باری ہے، ”بے شک جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات دن اور خفیہ علائیہ تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کو کوئی خوف نہیں اور نہ ہی ان کو کوئی حزن ہے، مفسرین کرام کا فیصلہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ بھی آپ کی شان میں نازل ہوئی جو آپ کی عظیم الشان سخاوت کی داستان بیان کر رہی ہے، حضرت علامہ اقبال نے آپ کا ایک واقعہ منظوم لکھا ہے، پڑھیے اور ایمان تازہ کیجئے۔

پوچھا حضور مسیح عالم نے اے عمر!
 اے وہ کہ جوش حق سے ترے دل کو ہے قرار
 رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا
 مسلم ہے اپنے خویش واقارب کا حق گزار
 کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق
 باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے شمار
 اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آگیا
 جس سے بنائے عشق و مروت ہے استوار
 لے آیا اپنے ساتھ وہ مدد و فنا سرست
 ہر چیز جس سے چشم مہاں میں ہو اعتبار
 ملک یکین و درہم و دینار رخت و جنس
 بہپ قمر، سم و شتر اور قطر و حمار
 بولے حضور، چاہئے فکر عیال بھی
 کہنے لگا وہ عشق و محبت کا راز دار
 اے تجھ سے دیدہ حصہ و انجم فروع کیر
 اے تیری ذات باعث تکوین روز گار
 پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس
 صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس

اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ﴿وَالذِّي جاءَ بِالصَّدْقَ وَ
 صدیق اکبر کی صداقت صدق بہ ﴾ اور وہ جو سچ لے کر آیا اور وہ جس

نے سچ کی تصدیق کی، یہی تو پرہیزگار ہیں، علامہ ابو علی طبری لکھتے ہیں، سچ لے کر آنے والے رسول کرم ﷺ ہیں اور سچ کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں

(تفسیر مجعع البیان ۲۹۸:۸)

علامہ ابو الحسن قمی نے لکھا ہے، حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہجرت کی رات غار ثور میں تھے تو آپ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، میں جعفر طیار اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں، جو کہ دریا میں کھڑی ہے، نیز فرمایا، میں انصار مدینہ کو اپنے گھروں میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں، یہ سن کر حضرت ابو بکر نے حیرت کا اظہار کیا کہ کیا آپ واقعی دیکھ رہے ہیں، فرمایا، ہاں، عرض کی، پھر مجھے بھی دیکھا دیجئے، آپ نے حضرت ابو بکر کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو انہوں نے بھی دیکھ لیا، آپ نے فرمایا، تو صدیق ہے، (تفسیر قمی ۲۹۰:۲) حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کا ایک اور فرمان ہے، جو حضرت ابو بکر کو صدیق نہ مانے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے قول کی تصدیق نہ کرے، (شفاف الغر ۲۸:۲) حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جنت تین آدمیوں کی مشتاق ہے، اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو انہیں فرمایا، اے ابو بکر تم صدیق رضی اللہ عنہ ہو اور غار میں دو کے دوسرے ہو، (رجال کشی ۳۲:۲) ان حقائق سے معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صداقت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔

خلافت الہی کی دواہم شرطیں ہیں علمی اور جسمی طور پر مضبوط صدیق اکبر کی علمیت ہوتا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو علم و فضل اور جرأت و شجاعت کے بے بہا خزانوں سے نوازا تھا، آپ علم الانساب کے بہت ماہر تھے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر ہر نیک کام میں پیش قدم رہتے اور علم الانساب کے بہت ماہر تھے، (العقد الغریدہ ۲۸۳:۳) حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ

علم الاناب کے ممتاز عالم تھے مگر اعتراف کرتے تھے کہ انہوں نے یہن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حاصل کیا تھا، قریش جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ہجو یہ اشعار سننے تو پہچان جاتے کہ ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مشورہ شامل ہے۔ آپ کو ایام العرب پر مکمل عبور تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا شعروادب اور ایام و نسب کی بہت بڑی عالمہ تھیں، حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کی بیوی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، (مسند احمد، ۲: ۲۷) کیونکہ آپ رسول اللہ ﷺ کی بیوی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، آپ کو مزاج قرآن اور مزاج پیغمبر رحمان کا سب سے زیادہ علم تھا، علم تعبیر میں بھی رسول اللہ ﷺ کے بعد سب سے زیادہ عالم تھے، جیسا کہ امام ابن سیرین کا فرمان ہے، علم تصوف اور علم فقه میں یہ طولی حاصل تھا، تصوف و معرفت کی بنیاد آپ کا یہ فرمان ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی مخلوق کے لئے معرفت کا اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں بتایا کہ لوگ اس کی معرفت سے عاجز ہیں، (کتاب المعم: ۱۳۳) اس بات پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے آپ کو امامت کے لئے منتخب فرمایا، آئیے دیکھئے کہ امامت کی شرائط کیا ہیں، ابو عبیدہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ہماری قوم میں کچھ لوگ جمع تھے، نماز کا وقت ہو گیا، ایک دوسرے کو کہنے لگا، اے فلاں تم آگے کھڑے ہو کر امامت کراؤ، آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے، آپ نے فرمایا، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے، جو زیادہ قرآن پاک پڑھنے والا ہو وہ امامت کرائے، اگر تمام پڑھنے میں برابر ہوں تو ہجرت میں مقدم آدمی امامت کرائے اگر ہجرت کرنے میں سب برابر ہوں تو جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرائے، (فروع کافی ۳: ۲۷۶) اس روایت کی روشنی میں دیکھئے کہ زگاہ نبوت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ علم قرآن، شان ہجرت اور عمر

مستعار میں سب صحابہ کرام سے زیادہ مقدم اور محترم تھے، اس لئے ان کو اپنا مصلح عطا فرمایا تھا، حضرت علی المرتضیؑ کا فرمان ہے، ﴿ اتیت بر حل یفضلنی علی ابی بکر و عمر لا جلد نہ، حد المفتری ﴾ اگر میرے پاس کوئی ایسا آدمی آئے جو مجھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے افضل سمجھے تو میں ضرور ضرور کوڑے لگاؤں گا جو مفتری کی حد ہے، (رجال کشی: ۳۳۸) اس طرح آپ بہت شجاع اور استقامت شعرا نسان تھے، پہلے مکہ مکرمہ کے کافروں اور مشرکوں سے برس پیکار رہے، پھر مدینہ طیبہ کے مناقوں اور یہودیوں سے نبرد آزمائے، اپنا دوڑ خلافت آیا تو مردوں اور ختم نبوت کے دشمنوں سے جنگ کا آغاز کیا، ایرانیوں، رومیوں اور سرحدی قبیلوں سے لڑائی کی، مجال ہے جو ایک لمحہ بھی عزیمت واستقامت کو ہاتھ سے جانے دیا ہو، مدینہ طیبہ کا واقعہ ہے کہ یہود کے ایک فرد فتحا ص نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی تو آپ نے غصے میں آکر اس کے طماںچہ رسید کر دیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی غیرت اسلامی کی تصدیق کے لئے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، بے شک اللہ نے ساجنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، (تفسیر مجتبی البیان: ۵۲۷) غزوہ احمد کا معز کہ بہت شدید تھا مگر آپ اس میں بھی ثابت قدم رہے، علامہ ابو علی طبری لکھتے ہیں، غزوہ احمد میں حضور اقدس ﷺ کے ساتھ صرف تیرہ اشخاص رہ گئے تھے، پانچ مہاجرین میں سے اور آٹھ انصار میں سے، مہاجرین میں سے حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقار (رضی اللہ عنہم) ثابت قدم رہے، (تفسیر مجتبی البیان: ۵۲۳)

حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سر اپا محبت رسول تھے، صدیق اکبر کی محبت آپ نے ایک دن گریہ زن ہو کر عرض کی، ”یا رسول اللہ“ میں اور میرا مال سب کچھ آپ کے لئے ہے، (جامع ترمذی، سن ابن ماجہ) ایک مرتبہ آپ

خطبہ ارشاد فرمانے کے لئے کھڑے ہوئے اور صرف اتنا ہی فرمایا، ﴿ قام فی نار رسول اللہ ﷺ سالِ الاول ﷺ تو آپ کے وصال کا سانحہ یا ڈآ گیا، پھر اسقدر بلک بلک کروئے کہ جکی بندھ گئی، آخر تیری بار ضبط سے کام لے کر خطبہ پورا فرمایا، (مندرجہ ۸:۱) ایک دفعہ کاشانہ نبوت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فراز اونچی آواز سے گفتگو کر رہی تھیں، آپ نے حضور اقدس ﷺ کے سامنے اونچی آواز کو بے ادبی سمجھا اور حضرت عائشہ کو مارنے کے لئے ہاتھ اٹھا لیا، (ازالہ الخوا ۲:۱۵) جب حضور اقدس ﷺ نے ازوں مطہرات سے ایلا فرمایا تو آپ حضرت عمر کے ہمراہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ کا حکم ہو تو ہم اپنی بیٹیوں (عائشہ و حضرة) کی گردان اڑا کر کھدیں، (صحیح مسلم) آپ اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز سے پست رکھا کرتے تھے، اس فعل مبارک کی جدت قرآن پاک میں نازل ہو گئی، بے شک جو لوگ اپنی آواز کو رسول اللہ کے سامنے پست رکھتے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لئے جن لیا ہے، انہی کے لئے بخش اور اجر عظیم ہے، (سورۃ الاجرات) صوفیہ کرام نے لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر ﷺ کی افضلیت صرف نماز روزے کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ اس خاص دولت کی وجہ سے تھی جو ان کے سینے میں موجود تھی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی انتہائی محبت جس کی تاریخ صحابہ میں بھی مثال نہیں ملتی، بقول اقبال

سوز صدیق و علی از حق طلب
ذرہ عشق نی از حق طلب
نازہ کن آمین صدیق و عمر
چوں بجا بر لالہ صحراء گزر
معنی حرم کنی تحقیق اگر

بُنگری بادیدہ صدیق اگر
وقت قلب و جگر گردو نبی
از خدا محظوظ تر گردو نبی

آپ کی ذات خاصہ خاصان عشق، مطلع دیوان عشق اور رہبر کار و ان عشق ہے
جس کے نقش پا پر چل کر زمانہ بارگاہ محبوب تک رسائی اور پذیرائی حاصل کرتا ہے۔

حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اخلاص ولہیت کا مجسم
صدیق اکبر کی ولہیت تھے، صرف ایک منظر دیکھئے، جب آپ کی بیعت مکمل ہو گئی
تو آپ نے رونا شروع کر دیا اور تین دن برابر روتے رہے اور کہتے رہے کہ لوگوں میں بیعت
توڑ دو، میں خلافت کا اہل نہیں ہوں جبکہ تم میں علی رضی اللہ عنہ جیسا شخص موجود ہے، پس میں تم
سے اپنی بیعت توڑتا ہوں، ہے کوئی تم میں مجھ سے کراہت کرنے والا، ہے کوئی تم میں مجھ
سے بغضہ رکھنے والا، پس ہر بار سب سے پہلے حضرت علی کھڑے ہوتے تھے اور کہتے
تھے، خدا کی قسم میں آپ سے بیعت نہیں توڑ دیں گا اور نہ آپ کو ہرگز اپنی بیعت منع کرنے دوں
گا، (تحفۃ الاحباب فی هریغ الاصحاب: ۱۲)

حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طبیعت نہایت سادہ
صدیق اکبر کی طبیعت اور پاکیزہ تھی، ایک مرتبہ انہوں نے پانی مانگا تو لوگوں
نے پانی اور شہد لَا کر پیش کیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے، آپ اسقدر روتے کہ لوگوں
پر رقت طاری ہو گئی، جب اس گریہ وزاری کا سبب پوچھا تو فرمایا، ایک روز میں حضور
انور رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھا، آپ کسی چیز کو دور دور فرمائے تھے، میں نے عرض کیا کہ یا رسول
اللہ، آپ کس چیز کو دور فرمائے ہیں، میں تو کچھ نہیں دیکھتا، آپ نے فرمایا، فریب دنیا
مجسم ہو کر میرے سامنے آیا تو میں نے اسے دور کر دیا ہے، اس وقت مجھے یہ واقعہ یاد آگیا

اور میں خوفزدہ ہوا کہ شاید اس کے دام تزویر میں پھنس جاؤں (اسد الغابہ: ۲۱-۲۲) ایک دفعہ ایک غلام نے آپ کو مشکوک کھانا کھلا دیا، جب اس نے حقیقت حال بیان کی تو آپ نے گلے میں انگلی ڈال کر سارا کھانا تھے کر دیا، (بخاری: ۵۳۲) دنیا طلبی اور جاہ پسندی سے آپ کی طبیعت و فطرت کو شدید نفرت تھی، آپ نہایت متواضع اور منکر المزاج تھے، کسی کام میں عار محسوس نہ کرتے تھے، بکریاں چڑھاتے، اہل محلہ کی بکریوں کا دودھ دوہ دیتے، جب خلیفہ بنے تو ایک خاتون محلہ نے کہا کہ اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دو ہے گا، آپ نے سناتو فرمایا، میں ہی دو ہوں گا، امید ہے مجھے خلافت، مخلوق خدا کی خدمت گزاری سے باز نہ رکھے گی، خلیفہ بنے کے بعد بھی کپڑے کے تھان کندھے پر رکھ کر بازار کی طرف روانہ ہوئے تو صحابہ کرام نے مشورے سے آپ کا وظیفہ مقرر کر دیا، کوئی شخص آپ کی تعظیم کرتا تو آپ کو تکلیف ہوتی، کوئی تعریف کرتا تو فرماتے، لوگوں نے مجھے بہت بڑھا دیا ہے، اے خدا تو میرا حوال مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور میں اپنی کیفیت ان لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں، اے خدا تو ان کے حسن ظن سے مجھے بہتر بنادے، میرے گناہوں کو بخش دے اور لوگوں کی بے جا تعریف سے میرا مو اخذہ نہ فرم، (اسد الغابہ: ۲۲-۲۳) مخلوق کی نفع رسانی اور خدمت گزاری آپ کا شیوه حیات تھا، اطراف مددینہ میں ایک ضعیف اور نابینا خاتون کے گھر کا سارا کام کا ج چیخ ہونے سے پہلے پہلے کرتے رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اس ارادے سے نکلنے تو پہلے آپ کو وہاں کام کرتے ہوئے دیکھا، پھر فرمایا، اے خلیفہ رسول ہر روز آپ ہی نیکی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، (کنز اعمال: ۳۱۲:۶)

آپ کی طبع مبارک میں حد درجہ رقت و محبت تھی، قرآن پاک کی تلاوت سنتے تو تڑپ اٹھتے، نماز میں خضوع و خشوع کا یہ حال تھا کہ لکڑی کی طرح بے حس و حرکت نظر آتے، کسی درخت کو دیکھتے تو فرماتے، کاش میں یہ درخت ہوتا کہ عاقبت کے جھگڑوں

سے چھوٹ جاتا، پرندوں سے مخالف ہوتے، تمہیں مبارک ہو، چرتے اور چلتے رہے ہو، درخت کے سارے میں بیٹھتے ہو، قیامت کے دن تمہارا کوئی حساب نہ ہو گا، کاش ابو بکر بھی تمہاری طرح ہوتا، (کنز تعالیٰ ۱:۲۳)

آپ مجاہے کے خوف سے ساری رات نماز پڑھتے رہتے، آپ سوز دروں کے باعث لمبی آہ کھینچتے یہاں تک کہ لوگ آپ کو "اواہ فیب" کے لقب سے یاد کرنے لگے، نیکوکاری کا کوئی کام نہ چھوڑتے، ایک دن آپ نے روزہ بھی رکھا، جنازہ میں مشایعت بھی کی، کسی مریض کی عبادت بھی کی، اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جس نے ایک دن میں اتنی نیکیاں جمع کی ہوں وہ یقیناً جنت میں جائے گا، (مسلم کتاب فضائل الحجہ) آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، بعض اوقات عمرت کے باعث دو دو تین میں دن فاقہ سے گزر جاتے مگر جو کچھ بھی میرا آتا پہلے اسلام کے راستے میں قربان کرتے اور خود صبر و قناعت سے کام ہلیتے، آپ کو زندگی کے ایک ایک لمحہ کا احساس تھا، فرماتے تھے، ہمارا گھر خالی ہے، ہمارے حالات عارضی ہیں اور ہمارے سانس گنتی کے ہیں اور ہر قسم موجود ہے، دنیا اور دنیادار کی کوئی قدر نہیں کہ اس کی طرف دل مشغول کیا جائے، (حضرات انقدس: ۲۵) ایک انگریز صورخوان کریم *von kremer* نے اپنی کتاب The Orient under caliphs میں لکھا ہے،

Abu Bakr the successor and representative of the prophet in The highest affairs of the muslim community was a simple man of the old Arabian fashion an when summoned to the caliphate. He was changed in no spect.'Out side the town is a small village called

SANAA, he lived with his wife HABAIBAH under a tent of camel hide in a style as simple and unostentatious as that of a Bedouin Shaykh, Thus did he live for seven months after his election. In the morning he used to start for the town either on foot or on horse back, reaching it just before sun rise to conduct the morning prayer. In a similar manner he returned home in the evening. He subsequently came to settle in town, but his household always remained as unpretentious as ever. He had only one slave who after finishing the domestic work , made himself useful by cleaning the swords of the faithful.

یعنی حضرت ابو بکر پیغمبر اسلام ﷺ کے بعد خلیفہ بنے، آپ کے جانشین کی خلیفت سے ان کو نظام اسلامی میں اگرچہ وسیع اختیارات ملے لیکن ان کے طرز زندگی اور رہن ہن میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہوئی اور آپ پرانے عرب تمدن پر قائم رہے، وہ مدینہ سے باہر نکلے ایک چھوٹے سے قبے میں ایک بدوسی شیخ کی مانند اونٹ کی کھال سے بنے ہوئے خیے میں الہ دعیاں سمیت زندگی برکرتے تھے۔ خلافت کے ابتدائی ایام میں سات ماہ آپ ہر روز پیدل یا گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ آتے اور فجر کی نماز مسجد نبوی میں باجماعت ادا کرتے اور مغرب کی نماز ادا کر کے گھر واپس لوٹتے، سات ماہ کے بعد آپ نے مدینہ میں سکونت اختیار کر لی گمراہ بھی آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی، بڑی سادہ زندگی تھی، صرف ایک غلام تھا جو گھر کا کام کا ج بھی کرتا اور فالتو و قوت اپنے آتا کے اسلوچ کو تیز کرتا اور کاراً مدد کرتا، (میاء حرم، صدیق اکبر نمبر: ۲۲۰) مسٹر لین پول (Lane)

(Pol) اپنی کتاب میں قمطراز ہے، Studies in a Mosque

Abu Bakr's calm judgement and quick sagacity joined to a gentle and compassionate heart, were of incalculable service to the faith of Islam.

حضرت ابو بکر صدیق فیصلہ کرتے وقت میں اور عادل ہوتے تھے، وہ دل کے زرم اور کریم انفس تھے اور خدمت اسلام کے بے لائگ جذبے سے بر شار تھے، (ایضا: ۲۷۷)
ڈاکٹر ول (Dr. well) اپنی کتاب (A history of the Islamic people) میں لکھتے ہیں،

He was kind, simple and pious. As a first collector of the Quraan to him belonged to credit of its complete preservation.

حضرت ابو بکر نرم دل، سادہ مزاج، اور تھی دپنیز گار تھے، آپ کو قرآن پاک جمع کرنے اور اسے محفوظ رکنے کی سعادت بھی تھی، (ایضا: ۲۷۵)

الغرض آپ اخلاق حسنہ اور عادات کریمہ کا عظیم پیکر تھے، جس کی ایک ایک اوامیں سنت مصطفیٰ کا عکس جمل جلوہ گر تھا، آپ کو دیکھ کر رسول اللہ ﷺ کی صورت و سیرت اور عظمت و شوکت کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے۔

خود آگاہ ہے کہ دین و ملت و ایمان و حکمت را
جلستے، جلاستے، نگارستے، وقارستے



باب نمبر 3

مناقب پیر فیض

بسم الله الرحمن الرحيم

اللہ تعالیٰ نے اس مجسمہ خیر و برکت کو بے شمار فضائل اور لا تعداد مناقب سے سرفراز فرمایا ہے، اس پر تمام اہل ہدایت کا اجماع ہے کہ انہیا کرام کے بعد تمام انسانوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام سب سے بلند ہے، کوئی آپ کا ہاتھی نہیں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تمام عمر کی نیکیاں آپ کی ایک نیکی پر مشک کرتی ہوئی دکھائی دیں تو پھر اور کون آپ کی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے۔

ما قاش ہاتھی اثنین است بلکہ سرفراز یہا
تعالیٰ اللہ ختم المرسلین را یار غار سے
بزیر گنبد خفرا جوار سید عالم
بہر جانب نزول رحمت پر وردگار سے
شب ہجرت عتیق ما رفق مصطفیٰ آمد
چہ محبوبے کہ دمساز حبیب کرو گار سے
بیک خیر ابو بکر است تنوریہ کمالاً ش

عمر را گرفتار فضائل مل مل انجمن بے شمار سے
آئیے اب چالیس احادیث نبویہ کی روشنی میں آپ کے مناقب و محسن کی لازوال
داستان کا مطالعہ کیجئے، جو ہمازے ایمان و عرفان کی تازگی کا بہترین ذریعہ ثابت ہو گا۔

— 1 —

حضرت عبد اللہ بن حصین رض سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، ﴿مَا دعوت أحداً إلی االسلام الا کانت عنده کبوة و تردد و نظر الابا بکر ما عکم عنه حین ذکرتہ ولا تردد فيه﴾ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کسی نہ کسی پش و پیش، تردد اور تامل کا اظہار کیا، یہ تو صرف ابو بکر رض ہے جس نے کسی تردد اور تامل کے بغیر فوراً میری دعوت کو قبول کر لیا، (البدایہ ۲: ۳۷، الریاض النضرہ)

(۱۵۰-۲۳:تاریخ دمشق)

..........

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا،
»من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر« جو چاہتا ہے کہ
دوخ کی آگ سے آزاد کسی انسان کی زیارت کرے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زیارت کر

لے، (المستدرک ۲: ۶۳، مندار الیونانی ۸: ۳۰۲، الفردوس ۳: ۵۳۰، مجمع الزوائد ۹: ۲۱)

10

حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ علی الصَّلَوةِ وَالسَّلَامِ میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا، آج رات میں مسجد حرام میں محاستراحت تھا (پھر اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی) حضرت ابو بکر نے کہا آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا، میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس دن ارشاد فرماتے ہوئے سنा، ﴿يَا أَبَا بَكْرَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ سَمَّا ك

الصدیق ﷺ، اے ابو بکر بے شک اللہ تعالیٰ نے تیرا نام صدیق رکھ دیا ہے، (الفردوس

۵:۳۰۷، الاصابیہ: ۸، مجمع ابوالعلیٰ: ۳۵:۱۰)

..... ۴۳ ۴۳

حضرت اسد بن زارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو لوگوں سے خطاب فرماتے ہوئے دیکھا، آپ نے التفات فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نظر نہ آئے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، ﴿ابو بکر ابو بکر ان روح القدس جبریل علیہ السلام ا خبر نی انفاً ان خیر امتك بعدك ابو بکر الصدیق ﷺ اے ابو بکر بیشک ابھی ابھی حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کی امت میں بہترین انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، (مجمع الزوائد: ۹، ۲۲: ۲۲، طبرانی اوسط: ۶۹۵: ۶)

..... ۴۵ ۴۵

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، ﴿لو کنت متخدًا من امتى خليلًا لا تخذت ابا بكر ولكن اخي و صاحبى ﷺ اگر میں اپنی امت سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن وہ میرا بھائی اور میرا ساتھی ہے، (بخاری: ۲، ۱۲۲۸: ۲، مسلم، مندرجہ: ۲۲۷: ۱)

..... ۴۶ ۴۶

حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، ﴿لو کنت متخدًا من هذه الامة خليلًا دون ربی لا تخذت ابن ابی فحافة ولكنه اخی فی الدین و صاحبی فی الغار ﷺ اگر میں اپنے رب تعالیٰ کے سوا اس امت کے کسی فرد کو خلیل بناتا تو ابو قافہ کے لخت جگر ابو بکر کو بناتا لیکن وہ دین میں میرا بھائی اور غار میں میرا ساتھی ہے، (حلیۃ الاولیاء: ۲۰۷: ۲)

(۴۷).....

حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے دعا فرمائی،
 ﴿اللهم انک جعلت ابوبکر رفیقی فی الغار فاجعله رفیقی فی الجنة﴾ اے اللہ،
 تو نے ابو بکر کو غار میں میرا ساتھی بنا یا تھا اپنے میں جنت میں اسے اپنا ساتھی بناتا ہوں
 (الریاض البصر ۲: ۲۷، میزان الاعتدال ۶: ۳۷۱)

(۴۸).....

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور قدس ﷺ کے مرض
 وصال کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھایا کرتے تھے، سموار کا
 دن آگیا اور صحابہ کرام نماز کی حالت میں کھڑے تھے، حضور قدس ﷺ نے جمروہ مبارکہ کا
 پردہ اٹھایا اور ہمیں دیکھنے لگے، آپ کا چہرہ مبارک ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کا درج ہے،
 پھر آپ تمسم فرماتے ہوئے ہنسے، آپ کی رویت مبارکہ کی خوشی میں ہم نے نمازوڑنے کا
 ارادہ کر لیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اپنی ایڑیوں کے بل بیچھے لوٹے تاکہ صاف میں
 شامل ہو جائیں اور انہوں نے یہ سوچا کہ آپ نماز کے لئے تشریف لانے والے ہیں، حضور
 قدس ﷺ نے ہماری طرف اشارہ فرمایا، تم اپنی نماز مکمل کر لو اور پردہ نیچے کر دیا، اسی روز
 آپ دنیا سے چلے گئے، (بخاری ۱: ۲۲۰، مسلم ۱: ۲۷۵، مصنف عبدالرزاق ۵: ۲۲۲، السنکبری ۲: ۲۵)

(۴۹).....

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا
 ﴿لَا يَنْبَغِي لِقَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٌ إِنْ يَوْمَ مِنْهُمْ غَيْرٌ﴾ کسی بھی قوم کے لئے روانہ ہیں کہ
 ابو بکر کے ہوتے ہوئے ان کی امامت کوئی اور کروائے، (جامع ترمذی ۵: ۱۱۲، الریاض البصر ۲: ۲۷)

(۱۰).....

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اسے دوبارہ حاضر ہونے کا حکم دیا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاسکوں تو کیا کروں، راوی کا بیان ہے کہ گویا وہ عورت آپ کے وصال پاک کی طرف اشارہ کر رہی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَجْعُلْنِي فَاتِيَّ أَبُوبَكْرَ اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ جانا، (بخاری ۲: ۳۳۸، مسلم ۲: ۸۵۶، اہرندی ۵: ۱۱۵، طبرانی فی الکبیر ۲: ۲۲، طبقات ۳: ۷۷)

(۱۱).....

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس عبدالقیس کا وفد آیا، ایک شخص نے ناروا گفتگو کی تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ اس کا جواب دیں، انہوں نے بہت اچھا جواب دیا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رضوان اکبر دیا ہے، کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ رضوان اکبر کیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، يَتَحْلِي اللَّهُ لِعِبَادِهِ فِي الْآخِرَةِ عَامَةً وَ يَتَحْلِي لَا بَيْ بَكْرٌ خَاصَّهُ اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے بندوں کے لئے عام جگلی فرمائے کا جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لئے خاص جگلی فرمائے گا۔ (المسند رک ۲: ۸۳، الریاض العضر ۲۶: ۲)

(۱۲).....

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا، ہر بھی کے دو وزیر اہل آسمان سے ہیں اور دو وزیر اہل زمین سے ہیں فَمَا وَزَرَ إِذْ مِنْ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ فَجَبَرِيلُ وَ مِيكَائِيلُ وَ إِمَامَ وَزِيرَ إِذْ مِنْ أَهْلَ الْأَرْضِ فَابُو بَكْرُ وَ عُمَرُ پس اہل آسمان سے میرے دو وزیر جبریل و میکائیل ہیں اور اہل زمین سے میرے دو

وزیر ابو بکر اور عمر ہیں، (ترمذی ۵: ۶۱۶، المسند رک ۲: ۲۹۰، تہذیب الاصفہ ۲: ۳۲۸، الریاض الفخر ۱: ۳۳۵)

..... (۱۴)

حضرت عبد اللہ بن حطب رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو دیکھ کر فرمایا هذا ن السمع و البصر یہ دونوں
(میرے) کان اور آنکھ ہیں، (ترمذی ۵: ۶۱۳، الاصفہ ۲: ۶۲)

..... (۱۵)

حضرت خذیلہ بن یمان رض سے روایت ہے، میں نے حضور اقدس ﷺ
سے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، میرا ارادہ ہے کہ میں تمام دنیا میں کچھ لوگ بھیجوں جو
لوگوں کو سنتوں اور فرضوں کے متعلق تعلیم دیں، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
اپنے حواریوں کو بھیجا تھا، کسی نے عرض کیا، آپ کا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے
میں کیا ارادہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّهُ لَا غُنْيَ بِهِ عَنْهُمَا إِنَّهُمَا مِنَ الدِّينِ
السمع و البصر ان دونوں کے علاوہ میرے لئے کون ہے، وہ دونوں تو دین میں
کان اور آنکھ کی مانند ہیں۔ (المسند رک ۱: ۷۸)

..... (۱۶)

حضرت عمر بن العاص رض سے روایت ہے کہ میں نے ذات السلاسل کی
جگ کے بعد حضور اقدس ﷺ سے سوال کیا کہ آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں،
آپ نے ارشاد فرمایا، عائشہ سے، پھر سوال کیا کہ مردوں میں سے، آپ نے ارشاد فرمایا،
اس کے باپ ابو بکر صدیق رض سے، پھر پوچھا کہ ان کے بعد، آپ نے ارشاد فرمایا،
عمر بن خطاب رض سے، پھر آپ نے اور لوگوں کا نام بھی لیا، (ترمذی ۵: ۷۰۶، منhad
۲: ۲۰۳، منhad ابو بعین ۲: ۳۲۹، بخاری ۲: ۳۲۹، مسلم کتاب فضائل الصحابة)

(۱۶).....

حضرت ابو درداء رض سے روایت ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کے پاس تھا کہ حضرت ابو بکر صدقیق رض حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے فرمایا، یہ صاحب لڑکر آئے ہیں، پھر انہوں نے سلام کیا اور بتایا کہ میری حضرت عمر سے تکرار ہو گئی تو جلدی سے ایک ایسی بات نکل گئی جس پر مجھے ندامت ہے، میں نے ان سے معافی بھی مانگی لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اللہ تھم ہمیں معاف فرمائے، یہ تین مرتبہ فرمایا، پھر حضرت عمر بھی نادم ہو کر آگئے اور سلام عرض کیا، اس وقت آپ کا رنگ متغیر ہو گیا تو یہ جلال دیکھ کر حضرت ابو بکر ڈر گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم زیادتی میں نے کی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام نے فرمایا ه ان الله بعثني اليكم فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدق و اسانی بنفسه و ماله فهل انتم تار کولی صاحبی ه بے شک اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا تو تم لوگوں نے مجھے جھٹایا لیکن ابو بکر نے (ہر قدم پر میری) تصدیق کی اور اپنی جان اور مال کے ساتھ میری خدمت کی، کیا تم میرے لئے میرے ساتھی سے درگزر کرو گے، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدقیق رض کو کبھی تکلیف نہ دی گئی، (السنن الکبریٰ: ۱۰، ۲۳۷، حلیۃ الاولیاء: ۹، تہذیب الکمال: ۱۰: ۱۱، بخاری کتاب الناقب)

(۱۷).....

حضرت عبد اللہ بن عباس رض سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام مرض وصال کے دوران باہر تشریف لائے، آپ نے سر انور کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا، آپ منبر پر رونق افزود ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، پھر ارشاد فرمایا، ه انه ليس احد امن على في نفسه و ماله من ابى بكر ابن ابى قحافه ه بے شک کوئی انسان ایسا نہیں جس نے اپنی جان اور مال کے ساتھ مجھ پر ابو بکر بن ابی قحافہ سے بڑھ کر احسان کیا ہو، (بخاری، ۱: ۲۸۰، مسند احمد: ۲۰۷، سنن نسائی: ۵: ۲۵، طبرانی فی الکبیر: ۱: ۲۲۸، طبقات: ۲: ۱، ابن حبان: ۱۵: ۲۵)

..... ۱۸

حضرت ابو ہریرہ رض سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا،
 (مَا لَا حَدَّ عِنْدَنَا يَدُ الْأَوْقَدِ كَمَا فِي نَاهِ مَا خَلَّا إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ عِنْدَنَا يَدُ أَيْكَا
 فَئَهُ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) کسی بھی انسان کا ہماری ذات پر کوئی احسان نہیں جس کا ہم
 نے (بہترین) بدله نہ دیا ہو، سوائے ابو بکر کے، بے شک ان کا ہم پر جواہsan ہے اس کا
 بدله قیامت کے دن اللہ عطا کرے گا، (ترمذی ۵: ۲۰۹، الفردوس ۳: ۱۰۳، تہذیب الاصالا ۲: ۲۷۸)

..... ۱۹

حضرت علی المرتضی رض سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا،
 (رَحْمَ اللَّهِ أَبَا بَكْرَ زَوْجِنِي بَنْتَهُ وَحَمْلَنِي إِلَى دَارِ الْهِجْرَةِ وَاعْتَقَ بِلَالَ مِنْ
 مَالِهِ) اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا میرے ساتھ نکاح کیا، مجھے
 اٹھا کر مدینہ لائے اور اپنے مال سے بلال کو آزاد کر دیا، (ترمذی ۵: ۱۳۳، مسند بزار ۳: ۵۲،
 تہذیب الکمال ۱۰: ۲۰۲، طبرانی فی الادسط ۶: ۹۵)

..... ۲۰

حضرت ابو سعید رض سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ ایک روز منبر مبارک پر
 جلوہ فرمائے اور ارشاد فرمایا، (لَا تَبْقِينَ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةً إِلَّا خُوْخَةً
 بَكْرَهُ)، مسجد میں ابو بکر کی کھڑکی کے سوا کسی کی کھڑکی باقی نہ رکھی جائے، (بخاری ۱: ۷۷، ترمذی
 ۵: ۱۰۹، سنن نسائی ۵: ۲۵، مجمع ابن حبان ۱۵: ۲۷۷) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
 کہ رسول اللہ ﷺ نے (مسجد میں) ابو بکر صدیق رض کے دروازے کے سواتھام
 دروازوں کو بند کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، (ترمذی ۵: ۶۱۲، سنن بیہقی ۲: ۳۳۳، سنن راری ۱: ۵۰)

..... ﴿۲۱﴾

حضرت انس بن مالک رض سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسالم نے ارشاد فرمایا،
 ﴿اَرْحَمَ اُمَّتِي بِاَمْتِي ابُوبَكْرٍ وَ اَشَدَّهُمْ فِي اَمْرِ اللَّهِ عُمَرٌ وَ اَصْدَقُهُمْ حَمَاءُ
 عُثْمَانُ﴾، میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں اور اللہ کے حکم میں سب سے
 زیادہ شدت والے عمر ہیں اور حیا میں سب سے زیادہ مقدم عثمان ہیں، (ترمذی ۵۶۳، سنن
 ابن ماجہ ۵۵، المسند رک ۲۷: ۳) ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، ﴿وَاقْضِي اُمَّتِي عَلَى اَبْنِ
 ابِي طَالِبٍ﴾، میری امت میں سب سے زیادہ قاضی علی ہیں، (طبرانی فی الحسیر ۲۳۵)

..... ﴿۲۲﴾

حضرت ابو ہریرہ رض سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسالم نے ارشاد فرمایا، جو شخص
 بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی چیز کا جوڑ اخراج کرے گا اسے جنت کے دروازوں سے
 آواز دی جائے گی، اسے اللہ کے بندے یہ بھلائی ہے، جو اہل صلوٰۃ سے ہو گا اس کو باب
 الصلوٰۃ سے آواز دی جائے گی، جو اہل جہاد سے ہو گا، اسے باب الجہاد سے، جو اہل صدقہ
 سے ہو گا اسے باب الصدقہ سے اور جو اہل صیام سے ہو گا اسے باب الصیام سے آواز دی
 جائے گی، حضرت ابو بکر صدیق رض نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے
 جس کو تمام دروازوں سے آواز دی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسالم نے ارشاد فرمایا، ﴿نَعَمْ وَارْجُو ان
 تکون مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ﴾ ہاں اور مجھے امید ہے نامے ابو بکر! تم ان لوگوں میں سے ہو،
 (معنف ابن الیشیر ۲۵۲، بخاری ۳: ۲۳۰، مسلم ۲: ۲۶۸، سنن نسائی ۵: ۳۶، صحیح ابن حبان ۸: ۲۰۲)

..... ﴿۲۳﴾

حضرت معاذ بن جبل رض سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسالم نے ارشاد فرمایا، ﴿لَهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي السَّمَاوَاتِ لِيَكُرِهَ اَنْ يَخْصُّ ابُوبَكْرَ فِي الْأَرْضِ﴾ اللہ تعالیٰ آسمان میں

نہیں جاہتا کہ زمین پر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کوئی خطاب ہو، (فصال اصحاب: ۲۰، ہجرانی فی الکبیر: ۲۷: ۲۰)

..... ۴۲

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ کے مکان میں تشریف لائے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آپ کے دامیں اور بائیں موجود تھے آپ نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، ﴿هَكُذَا نَبَعْثُ إِلَيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ہم قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے، (ترمذی: ۵، ۲۲: ۱۷، المسدرک: ۳۲: ۲۲، سنن ابن ماجہ: ۳۸)

..... ۴۲

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے مجھ سے زمین شق ہوگی، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شق ہوگی اور پھر عمر سے شق ہوگی، پھر میں اہل بقیع کے پاس آؤں گا تو ان سے زمین شق ہوگی، میں ان تمام کے درمیان اٹھایا جاؤں گا، (المسدرک: ۲۲: ۲)

..... ۴۳

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم حضور اقدس ﷺ کے پاس بیٹھتے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ﴿يَطْلَعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ﴾ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا، پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے، سلام کیا اور بیٹھ گئے، (ترمذی: ۵، ۲۲: ۱۷، المسدرک: ۲۲: ۷، مجمع الزوائد: ۹: ۱۱) اس مضمون کی حدیث حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے بھی منقول ہے، ہم حضور اقدس ﷺ کے ہمراہ ایک صحابیہ کے گھر گئے، انہوں نے ہمارے لئے بکری ذبح کی، آپ ﷺ نے فرمایا، ﴿لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ﴾ ابھی ایک جنتی مرد اندر داخل ہو گا، پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے، (المسدرک: ۲۲: ۱۷، منداد حمزہ: ۲۸)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام نے میرا تھوڑا کر بھجے جنت کا دروازہ دکھایا جسمیں سے میری امت جنت میں داخل ہوگی، حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ میں بھی آپ کے ہمراہ ہوتا تاکہ جنت کا دروازہ دیکھ لیتا، آپ نے ارشاد فرمایا (امانٹ یا ابابکر اول من بد خل الجنة من امتی) اے ابو بکر میری امت میں تم ہی تو وہ شخص ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، (سنن ابی داؤد: ۲۱۳، المسند رک ۲: ۲۷۷، تہذیب الاصفاء: ۲۸۸)

..... ۴۲۸

حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے، رسول اللہ نے حضرت ابو بکرؓ سے اور حضرت عمرؓ سے ارشاد فرمایا، (هذا ن سید اکھوں اهل الجنة من الاولین والاخرين الا النبیین والمرسلین) نبیوں اور رسولوں کے علاوہ یہ دونوں پہلوں اور پچھلوں کے سب عمر سیدہ جنتوں کے سردار ہیں، (ترمذی ۵: ۶۱۰، طبرانی فی الاوسط، ۷: ۶۸، فضائل الصحابة: ۱۳۸) یہ روایت حضرت علی المرتضیؑ سے بھی مروی ہے، جس میں اتنا اضافہ ہے کہ اے علیؑ ان دونوں کو ان کی زندگی میں یہ بات نہ بتانا، (سنن ابن ماجہ: ۳۷، ترمذی ۵: ۶۱۱، الفردوس: ۱: ۳۳۷، مصنف ابن ابی شیرہ: ۶: ۳۵۰)

..... ۴۲۹

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ سے ارشاد فرمایا، (انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار) تم حوض کوڑ پر میرے ساتھی ہو اور غار ثور میں میرے ساتھی ہو، (ترمذی ۵: ۶۱۳)

..... ۴۳۰

حضرت سہل بن سعدؓ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا،

﴿حَبَّابِيْ بَكْرٌ وَشَكْرٌ وَاجْبُ عَلَى امْتِي﴾ ابو بکر کی محبت اور شگر میری تمام امت پر واجب ہے، (الفردوس: ۱۳۲: ۲)

.....(۳۱).....

حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، بے شک میں (بدأت خود) نہیں جانتا کہ تمہارے پاس کتنی دیر ہوں گا، تم میرے بعد ان لوگوں کی اطاعت کرنا، پھر آپ نے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی طرف اشارہ فرمایا، (ترمذی: ۵، سنن ابن ماجہ: ۳۷، منhadیح: ۲۸۵) ایک روایت کے الفاظ ہیں، ﴿اقْتُدُوا بِالذِّينَ مِنْ بَعْدِيْ اِبْنِيْ بَكْرٍ وَعَمِّرٍ﴾ تم میرے بعد ابو بکر اور عمرؑ اطاعت کرنا، (سنن بیحقی: ۱۵۳: ۸، مجمع الزوائد: ۹: ۲۹۵)

.....(۳۲).....

حضرت جابر بن سمرةؓ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، جنت میں اونچے درجوں پر فائز لوگوں کو نیچے درجوں والے لوگ اس طرح دیکھیں گے جس طرح وہ آسمانی ستاروں کو دیکھتے ہیں، ابو بکر و عمر ان اونچے درجے والوں میں شامل ہیں، کیا یعنی اچھی قسم کے مالک ہیں، (مجموع الزوائد: ۹: ۵۳)

.....(۳۳).....

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ عنبر مبارک پر جلوہ گر ہوئے اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی زیبائش حاصل کر لے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ حاصل کر لے، تو اس بندے نے وہ پسند کر لیا جو اللہ کے پاس ہے، حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارے والدین آپ پر قربان ہوں، ہمیں حیرت ہوئی اور لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس شیخ کو

دیکھو، حضور اقدس ﷺ کسی بندے کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی زیباتش یا اپنے پاس والی نعمتوں کو حاصل کرنے کا اختیار دیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے والدین آپ پر قربان ہوں، حضرت ابو سعید فرماتے ہیں، دراصل یہ اختیار حضور اقدس ﷺ کو ہی عطا کیا گیا تھا اور حضرت ابو بکر اس راز کو سب سے زیادہ جانتے تھے،

(بخاری ۳: ۱۳۷، ترمذی ۶: ۲)

..... ۴۲۳

حضرت امام زہری علیہ الرحمہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تم نے ابو بکر کی شان میں کچھ نہیں کہا، انہوں نے عرض کیا ہاں، آپ نے فرمایا، مجھے بھی سناؤ، حضرت حسان نے یہ اشعار سنائے

ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد

طاف العدو به اذ صعد الجبل

وكان حب رسول الله علمنوا

من البرية لم يعدل به رجلا

یہ اشعار سن کر آپ نہیں پڑے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے حسان تم نے سچ کہا ہے واقعی وہ ایسے ہی ہیں، (المسدوك ۲: ۲)

..... ۴۲۵

حضرت عمر بن عبده رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں بعثت کے ابتدائی دنوں میں رسول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مکہ مکرمہ میں خفیہ تبلیغ فرمایا کرتے تھے، میں نے آپ کی باتیں سن کر عرض کیا، آپ کا دین تو بہت اچھا ہے لیکن آپ کی اتباع کس نے کی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، ایک غلام اور ایک آزاد نے، یعنی ابو بکر اور بلاں نے، (المسدوك ۲: ۲۸، مدد حسن ۳: ۲)

(۳۶).....

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، چاندنی رات میں رسول اللہ ﷺ کا سر انور میری گود میں تھا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کسی انسان کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہوں گی، فرمایا، ہاں عمر کی، میں نے عرض کیا، ﴿فَإِنْ حَسَنَتْ أَبْيَ بَكْرٍ﴾ تو ابو بکر صدیقؓ کی نیکیاں کہاں گئیں، آپ نے فرمایا، ﴿أَنَّمَا جَمِيعَ حَسَنَاتِ عُمْرٍ كَحَسْنَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ أَبْيَ بَكْرٍ﴾ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کی مانند ہیں، (رواہ رزین، ملحوظہ باب المناقب)

(۳۷).....

حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک ترازو اتری تو آپ اور حضرت ابو بکرؓ تو لے گئے، آپ بڑھ گئے، پھر حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ تو لے گئے تو حضرت ابو بکرؓ بڑھ گئے، پھر حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ تو لے گئے تو حضرت عمرؓ بڑھ گئے، پھر وہ ترازو اٹھا لی گئی، اس پر رسول اللہ ﷺ فرمیں ہو گئے پھر آپ نے ارشاد فرمایا، یہ نبوت کی خلافت ہے، پھر اللہ جسے چاہے گا ملک دے گا، (رواہ اتر فی وابوراود، ملحوظہ باب المناقب)

(۳۸).....

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، میرے پاس اپنے والد ابو بکرؓ اور اپنے بھائی کو بلا دتا کہ میں ایک تحریر لکھ دوں کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کوئی تمذا کرنے والا کرے یا کہنے والا کہے کہ میں (خلافت کا حقدار ہوں) لیکن اللہ اور ایمان والے ابو بکر کے سوا کسی کو (خلافت کا حقدار) نہیں مانیں گے (رواہ مسلم، ملحوظہ باب المناقب)

.....(۳۹).....

حضرت ابو ہریرہ رض سے روایت ہے، ایک شخص گائے لئے جا رہا تھا، تھک گیا تو اس پر سوار ہو گیا، وہ بولی کہ ہم اس کام کے لئے نہیں پیدا کئے گئے، ہم زمین کی کھیتی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں تو لوگ بولے، سبحان اللہ گائے بول رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے فرمایا کہ اس پر میں اور ابو بکر و عمر ایمان لائے، حالانکہ وہ دونوں وہاں نہ تھے اور فرمایا کہ ایک شخص اپنی بکریوں میں تھا کہ ان میں سے ایک بکری پر بھیڑیے نے حملہ کیا اور اسے لے گیا تو اسے بکری والے نے پکڑ لیا اور اس سے چھڑا لیا، بھیڑیے نے کہا کہ درندوں کے دن اس کا کون محافظ ہو گا، جس دن میرے سوا اس کا کوئی چہ وہاں نہ ہو گا تو لوگ بولے، سبحان اللہ بھیڑیا بول رہا ہے۔ فرمایا کہ اس پر میں ایمان لایا اور ابو بکر اور عمر ایمان لائے حالانکہ وہ دونوں وہاں نہ تھے۔ (مسلم و بخاری، مکحولة باب الناقب)

.....(۴۰).....

حضرت ابو ہریرہ رض سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے ارشاد فرمایا، لهم اصحابك اللهم فی صدری شیألا صبیتہ فی صدر ابی بکر رحمه کوئی چیز ایسی اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں نہیں ڈالی جس کو میں نے ابو بکر کے سینے میں نہ ڈال دیا ہو، (حضرات القدس: ۲۴: بحوالہ متدرک)



باب نمبر ۴

آثارِ صحابہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی خوش نصیب انسان کو اپنا محبوب بنالیتا ہے تو اہل آسمان اور اہل زمین کے دلوں میں اس کی محبت جاگزیں فرمادیتا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہیں لہذا ان کی محبت و اطاعت کو تمام صحابہ کرام اور تابعین عظام نے دل کی اتحاد گھبرائیوں سے اختیار کیا، اور ان کی مدحت سرائی میں خوب رطب اللسان رہے، یہ تاریخی حقیقت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے بعد سب سے بڑھ کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رض کی تعظیم و توقیر کی ہے، ذیل میں اس کی روشن مثالیں رقم کی جاتی ہیں،

..... ﴿۱﴾

روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رض کے پاس حضرت سیدنا صدیق اکبر رض کا ذکر کیا گیا تو آپ رونے اور فرمانے لگے، میری آرزو ہے کہ میرے سارے عمل حضرت ابو بکر رض کے ایک دن اور ایک رات کے عمل کی طرح ہوتے، آپ کی رات وہ رات ہے جب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غار کی طرف پہنچ، تو جب وہ دونوں غاریک

پہنچے، عرض کیا، واللہ آپ اس میں داخل نہ ہوں حتیٰ کہ آپ سے پہلے میں داخل ہو جاؤں اگر اس میں کوئی چیز ہو تو پہلے مجھے نقصان پہنچائے نہ کہ آپ کو، پھر آپ داخل ہونے اور اسے صاف کیا اور اس کے ایک کنارے میں سوراخ پائے، آپ ﷺ نے تمہند پھازا اور سوراخ بند کئے، ان میں سے دوسرا خ رہ گئے تو ان میں اپنے پاؤں دیدیئے، پھر رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ تشریف لا میں، رسول اللہ ﷺ نے تشریف لا کر اپنا سر آپ ﷺ کی گود میں رکھا اور سو گئے، حضرت ابو بکر ﷺ کے پاؤں میں سوراخ سے ڈس لیا گیا، آپ ﷺ نے بالکل جنبش نہ کی، اس ڈر سے کہ رسول اللہ ﷺ جاگ نہ پڑیں، پھر آپ ﷺ کے آنسو رسول اللہ ﷺ کے چہرہ مبارک پر گرے تو فرمایا، اے ابو بکر (ﷺ) کیا ہوا، عرض کیا، آپ ﷺ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، میں تو ڈس لیا گیا، تب رسول اللہ ﷺ نے اپنا العاب وہن لگادیا تو وہ تکلیف جاتی رہی، پھر وہ زہر لوت آیا اور آپ کی وفات کا سبب بنا، آپ کا دن وہ، جب رسول اللہ ﷺ نے وصال فرمایا تو اہل عرب مرتد ہو گئے، اور بولے کہ ہم زکوٰۃ نہ دیں گے، آپ نے فرمایا، مجھے ایک رسی کا انکار بھی کریں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا، میں نے عرض کیا، اے رسول اللہ کے خلیفہ، لوگوں سے الفت کریں اور نرمی سے کام لیں، آپ نے فرمایا، تم جاہلیت میں سخت تھے اور اسلام میں نرم ہو، وحی بند ہو چکی ہے اور دین مکمل ہو چکا ہے، کیا میرے ہوتے ہوئے دین میں کمی کی جائے گی، (رواہ زرین، مشکوہ، باب المناقب)

☆..... حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، (ابو بکر سیدنا خیرنا واحبنا اللہ رسول اللہ ﷺ) ابو بکر ہمارے سردار ہیں، ہمارے بہترین انسان ہیں، اور رسول اللہ ﷺ کے حضور ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، (رواہ الترمذی، مشکوہ باب المناقب)

..... ۴۲
..... ۴۳

حضرت حمran سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ﴿ان ابو بکر
احق الناس بھا یعنی الخلافۃ انه صدیق و ثانی اثنین و صاحب رسول اللہ ﷺ
بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ وہ صدیق ہیں،
ثانی اثنین ہیں اور رسول اللہ ﷺ کے مصاحب خاص ہیں، (کنز العمال ۱۳۰۳)

حضرت عبد اللہ بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ
سے سنا کہ ﴿ خیر الناس بعد رسول اللہ ﷺ ابو بکر و خیر الناس بعد ابی
بکر عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس ﷺ کے بعد بہترین ابو بکر ہیں اور ان کے بعد بہترین عمر ہیں،
(شن ابن ماجہ ۳۹، حلیۃ الاولیاء ۱۹۹، الاستیعاب ۲/۱۱۳۹) آپ کا فرمان ہے، ﴿ خیر هذه
الامة بعد نبیها ابو بکر ﴾ حضور اقدس ﷺ کے بعد اس امت کا افضل انسان ابو بکر
ہے، (طبرانی فی الاوسط ۲۹۸، مصنف ابن الیثیر ۲۵۱:۶، مذکور ۱۶۷) آپ نے ایک مرتبہ صحابہ
کرام سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے، انہوں نے عرض کیا، آپ ہیں،
آپ نے فرمایا، ﴿ اشجع الناس ابو بکر ﴾ لوگوں میں سب سے بہادر ابو بکر صدیق
ہیں، غزوہ بدرب میں ہم نے حضور اقدس ﷺ کیلئے ایک چھپر تیار کیا اور کہا کہ آپ کے ساتھ
کون رہے گا تا کہ کوئی مشرک آگے نہ بڑھ سکے، اللہ کی قسم، ابو بکر کے سوا کوئی آگے نہ
بڑھا، (جو حفاظت رسول کا فریضہ سرانجام دیتا) وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس تکوار لے کر
کھڑے ہو گئے، پھر جو نبی کوئی دشمن رسول اس طرف آتا تو وہ اس پر حملہ کر دیتے،
(الریاض النظر ۳۲:۲) حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ
نے فرمایا، وصال مصطفیٰ رضی اللہ عنہ کے بعد ہم نے اپنے کام میں غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچ کہ

حضرور اقدس ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز میں امام بنایا ہے، چنانچہ ہم دنیا کے معاملے میں اس پر راضی ہو گئے، جس پر حضور نبی کریم ﷺ ہمارے دین کے معاملے میں راضی ہو چکے تھے، ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آگے کر دیا، (اور خود ان کی اطاعت کرنے لگے)، (الاستیعاب ۲: ۹۷۱، طبقات ابن سعد ۳: ۱۸۳، تہذیب الاساء ۲: ۳۸۰، صفة الصفوہ ۱: ۵۵۷) آپ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا والی بناؤ گے تو انہیں دنیا سے بیزار اور آخرت کے لئے تیار پاؤ گے، (مسند احمد ۱: ۱۰۸، الاصابة ۳: ۵۶۹)

حضرت محمد بن حفیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حضرور اقدس ﷺ کے بعد آپ افضل ہیں، آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ میں نے پوچھا، ان کے بعد افضل کون ہے، آپ نے فرمایا، عمر، میں نے اس ڈر سے کہ اب آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیں گے، خود ہی کہہ دیا کہ ان کے بعد سب سے افضل آپ ہیں، آپ نے فرمایا، نہیں میں تو مسلمانوں میں ایک عام آدمی ہوں، (بخاری ۳: ۱۳۲۲، سنن ابو داؤد ۲: ۲۰۶، تہذیب الاساء ۲: ۳۲۸)

..... ۴۲

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم حضرور اقدس ﷺ کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر کسی صحابی کو نہ سمجھتے تھے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور پھران کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سمجھتے، باقی صحابہ کرام کو رہنے دیتے، ان میں کسی کی افضیلت بیان نہ کرتے (بخاری)، ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ دنیا میں زندہ تھے تو ہم ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھران کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور پھران کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تمام امتیونی سے افضل جانتے تھے، (مشکوٰۃ باب المناقب)

(۴۵)

حضرت زیر حفظہ کا فرمان ہے، حضرت ابو بکر صدیق حفظہ سب سے زیادہ
قدار خلافت ہیں، آپ حفظہ صاحب غار ہیں، ثانی اثنین ہیں۔ بھر آپ کے شرف و
عزت کو جانتے ہیں، بے شک حضور اقدس علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں آپ ہی کو نماز
پڑھانے کا حکم دیا تھا، (المستدرک ۲:۳۰۷، سنن بیہقی ۱۵۲، البدایہ ۳۰۹۶)

(۴۶)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہبھوشاورہم
لئی الامر یعنی تمام کاموں میں ان سے مشورہ کرو، اس آیت کریمہ میں حضور اقدس حفظہ کو حضرت
ابو بکر حفظہ اور حضرت عمر حفظہ سے مشورہ لینے کا حکم ہوا، (المستدرک ۳۳۲)

(۴۷)

حضرت جامیں عبد اللہ رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے، ایک دن حضرت عمر فاروق حفظہ
نے حضرت سیدنا صدیق اکبر حفظہ سے کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ ہے اے اللہ
کے رسول کے بعد بہترین انسان، (ترمذی ۵:۶۱۸، المحدث ۹۷۳)

(۴۸)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے، جب حضور اقدس حفظہ کو مسجد اقصیٰ کی
سیر کرائی گئی تو آپ نے یہ واقع صحیح کے وقت لوگوں سے بیان فرمایا، کچھ ایمان لانے والے
لوگ بھی اس واقعہ کا انکار کرنے لگے، وہ دوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق حفظہ کے پاس پہنچے اور
بولے، کیا آپ اپنے ساتھی کی اس بات پر بھی تصدیق کرتے ہیں کہ آج رات ان کو مسجد
اقصیٰ کی سیر کرائی گئی ہے، آپ نے فرمایا، اگر رسول اللہ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے تو صحیح فرمایا
ہے، انہوں نے کہا، کیا آپ تصدیق کرتے ہیں کہ آج رات وہ مسجد اقصیٰ گئے اور صحیح ہونے

سے پہلے لوٹ بھی آئے، آپ نے فرمایا، میں تو صبح و شام ان پر اترنے والی آسمانی خبروں کی تصدیق بھی کرتا ہوں، جو اس واقعہ سے زیادہ بعید ہے، لہذا اس شان تصدیق کی بدلت آپ کو لقب صدیق سے نوازا گیا، (مصنف عبدالرزاق ۵: ۲۷۸، المسند رک ۶۵: ۳)

..... ۴۹
..... ۴۹

شاعر دربار رسالت، حضرت حسان بن ثابت رض کا نذر رانہ محبت ہے

اذا تذکرت شجوامن اخی ثقة
فاذکرا خاك ابا بكر بما فعل
خير البرية اتقاها واعدلها
بعد النبى و اوفاهما بما حمل
الثانى التالى المحمود مشهدة
و اول الناس منهم صدق الرسلا

ترجمہ منظوم

جب ترے دل میں کسی بھائی کا ہو نقش خیال
یاد کر صدیق اکبر رض کا کمال بیمثال
عدل میں ، تقویٰ ، فرائض میں، وفا میں بالیقین
بہترین دوسرا کے بعد وہ ہیں بہترین
مصطفیٰ کی پیروی کو جاننے والے ہیں آپ
سب رسول کو سب سے پہلے ماننے والے ہیں آپ،
(المسند ۲: ۹۷، مصنف ابن ابی شہبہ - ۱۲، فضائل الصحابة ۱۲۲، مجمع الزوائد

۱۰۳۹، سیعاب ۹۱۳ طہ انجی فی نہیر ۱۲، سنن بیہقی ۳۹۶)

(۱۰)

حضرت موسی بن عقبہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، ہم حضرت ابو قافہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے سوا کہیں بھی ایسے چار افراد کو نہیں جانتے جنہوں نے خود اور ان کے بیٹوں نے رسول اکرم ﷺ کا دیدار کیا ہو، (طبرانی فی الکبیر ۵۲، المسدر ک ۵۲۰/۲) یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خاندان کی چار پیشیں حضور ﷺ کی صحابیت سے مشرف ہوئیں، کسی اور خاندان کو یہ شرف و مقام نصیب نہیں ہوا،

(۱۱)

حضرت ابو حفص عمرو بن علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا رخ انور ہے اور آپ کا نام نامی عبد اللہ بن عثمان ہے۔ حضرت لیث بن سعد رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، آپ بہت خوبصورت تھے اس لئے آپ کا نام عتیق رکھا گیا، اصل نام تو عبد اللہ بن عثمان ہے، (مجموع الزوائد ۹: ۳۱)

(۱۲)

حضرت ابو میسرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو ایک آواز سنتا ہوں اور اللہ کی قسم ڈرتا ہوں کہ کوئی سانحہ نہ ہو جائے، انہوں نے جواب دیا، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ سلوک نہ کرے گا کیونکہ آپ امانتدار، مہربان اور صادق ہیں، پھر جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا شانہ نبوت میں داخل ہوئے تو رسول اللہ ﷺ وہاں نہیں تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کا یہ فرمان آپ کو سنایا اور فرمایا، یہ باعتعیق اذہب مع محمد الی ورقہ ابن نو فل ہے اے عتیق، تم محمد مصطفیٰ ﷺ کے ہمراہ ورقہ بن نو فل کے پاس جاؤ، (دائل الدواع ہمیق ۱۰۸.۲)

جب آپ پنج لے کر میوٹ ہو گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رض نے تصدیق کرنے کا شرف حاصل کر لیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے اوپر سرخ رنگ کی چادر اوڑھ کر باہر تشریف لا میں اور فرمایا، اے ابن ابی قحافہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کیلئے ہے جس نے تمہیں ہدایت سے سرفراز فرمایا، (سیرت حلیہ ۱: ۲۳۱)

..... ۱۴

حضرت ابو بکر رض سے روایت ہے کہ میں حضرت فاروق اعظم رض کے پاس حاضر ہوا تو ایک قوم کھانا کھارہی تھی، حضرت عمر فاروق رض نے ایک آدمی کو دیکھا اور فرمایا، تم آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے ہو، ان میں کیا پڑھا ہے، اس آدمی نے جواب دیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ان کا صدیق (ابو بکر) ہو گا، (صواتع محرقة ۲۶)

..... ۱۵

حضرت عبد اللہ بن جعفر رض سے روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رض ہمارے حکمران بنائے گئے تودہ بہت اچھے خلیفہ ہیں، ہم پر بہت زیاد رحم فرمانے والے اور مہربانی کرنے والے ہیں، (الاصابہ ۲: ۲۲۲)

..... ۱۶

حضرت سید نابل جمشی رض فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں تجارت کرنے کیلئے ملک شام گیا تو وہاں ایک اہل کتاب نے مجھے پوچھا کہ تمہارے پاس کسی شخص نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، میں نے کہا، ہاں کیا ہے، اس نے کہا، تم اس کی تصویر پہچان لو گے، میں نے کہا، ہاں پہچان لوں گا، وہ مجھے ایک مکان میں لے گیا جہاں بہت سی تصویریں تھیں، وہاں مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر نظر نہ آئی، اتنے میں ایک اور اہل کتاب آیا اور بولا، کیا کر رہے ہو، ہم نے اسے بتایا تو وہ ہمیں اپنے گھر لے گیا، وہاں میں نے

حضرت اقدس ﷺ کی تصویر دیکھ لی، تصویر میں ایک شخص نے آپ کے قدم پکڑے ہوئے تھے، میں نے پوچھا (یہ تو وہ نبی محترم ہیں اور) یہ دوسرا کون ہے؟ وہ ابل کتاب بولا، ہر نبی کے بعد کوئی نبی ضرور آیا مگر اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ شخص اس کے بعد خلیفہ ہو گا، میں نے جب غور سے دیکھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تصویر تھی، (طبرانی فی الکبیر)

..... ۱۶

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک ڈول نازل ہوا ہے، حضرت اقدس ﷺ نے اس ڈول سے دس گھونٹ پانی پیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑا دیا، انہوں نے دو اور آدھا گھونٹ پانی پیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دس گھونٹ پانی پیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پکڑا دیا، انہوں نے بارہ گھونٹ اور کچھ پانی پیا تو اسے آسمان پر اٹھالیا گیا، (الفردوس: ۲۸۲: ۲)

..... ۱۷

حضرت ابو یحییٰ تابعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے بیشتر مرتبہ حضرت علی الرضا رضی اللہ عنہ کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ پیشک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم ﷺ کی زبان مبارک سے حضرت ابو بکر کا صدیق رکھا ہے، (الاصابہ: ۳۳۳: ۲)

..... ۱۸

حضرت زوال ہلائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم کچھ لوگ حضرت علی الرضا رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھے، آپ کے اصحاب کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، حضرت اقدس ﷺ کے تمام صحابہ میرے اصحاب ہیں، ہم نے پوچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتائیے، آپ نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ آدمی ہے، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی زبان سے صدیق رکھا ہے، آپ نماز میں

رسول اکرم ﷺ کے خلیفہ ہوئے، رسول اکرم ﷺ نے آپ کو ہمارے دین کے لئے پسند کیا تو ہم نے آپ کو اپنی دنیا کیلئے پسند کر لیا، (الاصابہ: ۲۶۲)

..... ۱۹

حضرت ابو حیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی المرتضی علیہ السلام نے فرمایا، حضور اقدس علیہ السلام کے بعد اس امت کے افضل انسان ابو بکر اور ان کے بعد افضل انسان عمر علیہ السلام ہیں، اگر میں چاہتا تو تم رے افضل انسان کے بارے میں بھی بتاؤ تھا، (مندرجہ: ۱۰۹) انہیں سے ایک اور روایت ہے کہ حضرت علی المرتضی علیہ السلام نے فرمایا، حضور اقدس علیہ السلام کے بعد بہترین امت حضرت ابو بکر علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت عمر علیہ السلام ہیں اور فرمایا اللہ تعالیٰ جہاں پسند کرتا ہے، وہاں خیر رکھ دیتا ہے، (ایضاً)

..... ۲۰

حضرت سعید بن زید علیہ السلام سے حضرت عمر بن حریث نے پوچھا کہ کیا آپ وصال رسول کے وقت موجود تھے، آپ نے فرمایا، ہاں میں موجود تھا، پوچھا، حضرت ابو بکر صدیق علیہ السلام کی بیعت کس دن ہوئی، آپ نے فرمایا، جس دن رسول اللہ ﷺ نے وصال فرمایا، اس لئے کہ لوگوں نے کچھ دن بھی جماعت کے بغیر برکت کرنے کو برائی کیا، پوچھا، کیا کوئی مہاجرایا بھی تھا جو گھر بیٹھا رہا، اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق علیہ السلام کی بیعت نہ کی، آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ مہاجر تو بغیر دعوت کے بیعت کیلئے دوڑ سائے تھے، (بخاری، طبری: ۳۷۸)

..... ۲۱

حضرت ابو والی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضی علیہ السلام سے عرض کیا گی کہ آپ ہم پر کوئی خلیفہ نہیں بنائیں گے، آپ نے فرمایا، جب حضور اقدس علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا (البته اشارے کنائے سے تو حضرت ابو بکر علیہ السلام کی خلافت کا ذکر فرمایا، جس پر

بہت سے دلائل موجود ہیں)، تو میں کیسے کروں، اگر اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی بہتری مقصود ہوگی تو عنقریب میرے بعد ان کو کسی بہتر انسان پر اکٹھا کر دے گا جس طرح ان کے نبی محترم ﷺ کے بعد بہتر انسان پر اکٹھا کر دیا تھا، (دلائل الدوۃ ۲۲۳، تخفیض الشافی ۳۷۲: ۲)

..... ۴۲۲ ۴

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ پانچ غلام، دو عورتیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، (فتح الباری ۱۷۰: ۷)

..... ۴۲۳ ۴

حضرت حبیب بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی الرضا رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرماتھے، جب آپ کو ایک آدنی نے اطلاع دی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیعت کیلئے جلوہ فرمائیں، آپ قمیغز پہنے ہوئے جلدی سے نکلے، ازار اور چادر کو بھی نہ اٹھایا کہ کہیں بیعت میں تاخیر نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے بیعت کرنی اور ایک آدمی کو کپڑے لانے کیلئے بھیجا، جب وہ نے آیا تو چادر زیر بتن فرمائی اور اس مجنس میں بیٹھ گئے، (تاریخ طبری ۳۳۸: ۲)

..... ۴۲۴ ۴

حضرت محمد بن زیر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا تھا، حضرت حسن بصری سید عبادت ہے بیٹھ گئے اور فرمایا، کیا اس میں کوئی شک ہے، تیہ ابا پنہ سے، اللہ کی قسم جس کے وہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، رسول اللہ ﷺ نے ان کو نیشنہ بنایا تسا۔ (اصدقت زابہ ۲۰۰: ۲)

(۲۵).....

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنا امام زیادہ علم والے انسان کو بنایا کرو کیونکہ حضور اقدس ﷺ نے زیادہ علم والے (یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ) کو ہمارا امام بنایا تھا، (الاستیعاب ۲۵۱:۲)

(۲۶).....

حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور اقدس ﷺ کے پاس سے گزر ا تو دیکھا کہ آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم تھے، آپ مسجد قبا کی بنیاد رکھ رہے تھے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ آپ مسجد کی بنیاد رکھ رہے ہیں جبکہ آپ کے ہمراہ صرف تین آدمی ہیں، آپ نے فرمایا، میرے بعد یہی خلافت کے وارث ہیں، (خصائص کبریٰ ۱۱۳:۲)

(۲۷).....

حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا توارکو چاندی چڑھانا جائز ہے، آپ نے فرمایا، ہاں جائز ہے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی توارکو چاندی چڑھا کر کھی تھی، راوی نے حیران ہو کر پوچھا، آپ بھی ابو بکر صدیق (رضی اللہ عنہ) کہتے ہیں، آپ نے اپنی جگہ سے انٹھ کر فرمایا، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، جو آدمی ان کو صدیق نہ مانے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے قول کی تصدیق نہ کرے، (کشف الغمہ فی معرفۃ الائمه ۲۶۰)

حضرات اہل بیت کے نزدیک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا مقام تھا، یہ اس بات سے بھی روشن ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے نام ان کے نام پر رکھے، مثلاً حضرت علی المحسن رضی اللہ عنہ نے اپنے تین بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھے، (تاہی

سلطان اسلام: ۲۹، جلاء العین: ۱۲۲: ۲) اسی طرح، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت امام مویٰ کاظم رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے فرزندوں کا نام ابو بکر کھا، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے وصیت فرماتے ہوئے کہا، میں نے خلفاً کرام کے علوں کو دیکھا اور ان کی خبروں پر غور کیا تو ان کے نقش قدم پر چلاحتی کہ میں بھی ان کی طرح ہو گیا، (صحیح البخاری جلد ۲) آپ کا یہ فرمان خلفائے ثلاثۃ علیہم الرضوان کی حقانیت کی دلیل ہے،

..... ﴿۲۸﴾

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے نانا جان ہیں، اگر میں ان کی عزت و عظمت کو تسلیم نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے کوئی عزت و عظمت عطا نہ کرے، (احقاق حق: ۷)، پھر فرمایا، ﴿ولدنی الصدیق مرتبین﴾ صدیق نے مجھے دو مرتبہ پیدا کیا ہے، (ایضاً)، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام کی والدہ ام فروہ، حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر کی بیٹی اور ام فروہ کی والدہ، حضرت اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر کی بیٹی تھیں، (جلاء العین، کشف الغمہ، احتجاج طبری وغیرہ) اس کے علاوہ حضرات اہل بیت کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان کے ساتھ اور بھی بہت سے رشتے قائم تھے جو اہل النصف کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں،

* * *

باب نمبر 5

الفتوحات

بسم الله الرحمن الرحيم

علامہ باقر مجلسی نے (ایک حدیث مبارک کی روشنی میں) لکھا ہے، خدا تعالیٰ امت محمدیہ کو بھوک سے ہلاک نہ فرمائے گا اور نہ گمراہی پر جمع کرے گا، (حیات القلوب ۲/۳۳)

گویا یہ امت محمدیہ کا بہت بڑا اعزاز ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ امت محمدیہ کے عظیم افراد نے اپنی کتابوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رض کی مدحت سراہی کا جو شرف حاصل کیا ہے وہ گمراہی اور بے رابروی پر منی نہیں، ان کے ایمانی جذبوں کا خوبصورت اظہار ہے، آئیے اس کہکشاں نور سے بھی اپنے دلوں کو منور کیجئے،

..... ﴿۱﴾

اممہ احناف کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رض اور حضرت عمر رض کی خلافت کا انکار کفر ہے، یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، دراصل یہ مسئلہ حضرت امام ابن حسن شیعیانی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا اور ظاہر ہے انہوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رض سے اخذ کیا ہو گا ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر

صدیقؑ کی امامت کا انکار امرِ کے اجماع کا انکار ہے، اور اجتماعی حکم کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، اسی لئے امامتِ صدیقؑ کے منکر کی تکفیر کی گئی ہے، علمائے اصول کے نزدیک بھی مشبور ہے، (صواعقِ محقر: ۷۵)

۴۲

حضرت امام فخر الدین رازی شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، بھرت میں سب سے مقدم حضرت ابو بکر صدیقؑ ہیں کیونکہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں رہ کر سفر بھرت ہے کیا ہے، وہ ہر وقت اور ہر جگہ آپ کے مصاحب خاص تھے، آپ کا یہ منصب دوسرے کسی منصب سے اعلیٰ ہے، حضرت علی الرضا علیہ السلام نے بھی بھرت فرمائی مگر رسول اللہ ﷺ کے بعد فرمائی، (تفیریک بیر: ۱۶۹: ۲)

۴۳

حضرت امام عبدالشکور سیالمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، حضرت صدیقؑ اکبرؓ کے جب ایمان لائے تو اس دن بھی خلافت کے زیادہ حقدار تھے، کیونکہ بچہ مغلام اور عورت تو خلافت کیلئے موزوں نہیں، لہذا ہم جو آپ کو امامت کا زیادہ حقدار سمجھتے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے، (التمہید: ۲۷)

۴۴

حضرت امام ابو عبد اللہ قرطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، احادیث صحیحہ کا ظاہر دلالت کرتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؑ ہی خلیفہ ہیں اور اس پر اجماع کا انعقاد ہوا ہے، جہاں تک کہ کوئی مخالف نہ رہا، لہذا آپ کی خلافت میں شخص تلاش کرنے والا اپنے فتن و گناہ کی بدولت اہل بدایت سے کٹا ہوا ہے، کیا اس کو کافر کہا جائے یا نہیں، اس نے اختلاف ہے اور زیاد و واضح فہمی ہے کہ اس کو کافر کہا جائے، (تفیریک قرطی: ۹۳: ۸)

(۴۵)

حضرت امام ابن حبان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، حدیث مصطفیٰ کہ میری جانب سے مسجد کے تمام دروازے بند کر دو مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھلا رہے، میں یہ دلیل ہے کہ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی آپ کے خلیفہ ہوں گے، گویا آپ نے اور لوگوں کی اس طمع کو ہی ختم کر دیا کہ وہ خلافت کی حسرت رکھیں، (ابن حبان ۹: ۵)

(۴۶)

حضرت امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، حدیث مصطفیٰ ﷺ ولو کنت متخدًا خلیلًا کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، کی شرح میں حضرت امام خطابی، ابن بطال اور دیگر علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اختصاص ظاہر ہے، اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ آپ ہی خلافت کا اتحاق رکھتے ہیں، یہ اتحاق اور اختصاص کیوں نہ ہو جب حضور اقدس صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا دروازہ بند نہ کرنے کا حکم دیا، اور آپ کو صحابہ کرام کی امامت کے لئے نامزد فرمایا تو یہ آپ کی خلافت کی طرف بہت قوی اشارہ ہے، بعض نے فرمایا کہ آپ کا دروازہ بند نہ کرنے میں آپ کی خلافت کا کنایہ ہے، گویا آپ کے سوا کوئی آدمی بھی خلافت کا طلبگار نہیں ہو سکتا، (سر اوار ہونا تو بڑی بات ہے) (معجم الباری ۷: ۱۳)

(۴۷)

حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الف ثانی قدس سرہ فرماتے ہیں، اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کفر و ضلالت کا احتمال رکھتے تو صحابہ کرام اپنی عدالت اور کثرت کے باوجود ان کو پیغمبر رب حجت صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین نہ بناتے، خلافت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تکذیب بھی ہوتی ہے اور اس بات کوئی بھی صاحب عقل و دانش ہرگز تسلیم نہیں کرے گا، پھر ایسا سمجھنے پر اس زمانے میں کوئی بھلامی رہ جائے گی جس زمانے کے تینتیس ہزار آدمی باطل پر جمع ہو

جائیں اور ایک ضال و مضل کو پیغمبر برحق ﷺ کا جانشین بنادیں، اللہ تعالیٰ اس جماعت کو انصاف کی توفیق دے کے اکابر پر زبان درازی سے بازا آجائیں اور رسول اللہ ﷺ کی صحبت کے حق کو ملحوظ رکھیں، (مکتب ۲۳ دفتر ۳)، زیادہ کیا لکھوں اور روشن ترین بات کو اور کتنا روشن کروں کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کی تعریف و توصیف سے تو قرآن کریم بھی بھرا پڑا ہے، ایک سورۃ والیل کو ہی دیکھے لیجئے کہ تمن آیات ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور صحیح احادیث تو بیشمار ہیں جو ان کے فضائل پر مشتمل ہیں، گذشتہ انبیا کرام کی کتابوں میں بھی ان کے اوصاف و شہادتیں تھے بلکہ تمام صحابہ کرام کا تذکرہ موجود تھا، (ایضاً) حضرات شیخین کی افضلیت اجماع صحابہ و تابعین سے ثابت ہے، جیسا کہ اس کو اکابر نے نقل کیا ہے، جن میں امام شافعی عیا، جب بھی ہیں، شیخ ابو الحسن اشعری علیہ الرحمہ جواہرست کے سردار ہیں، فرماتے ہیں کہ باقی امت پر شیخین کی افضلیت یقینی ہے اور دوسرے صحابہ پر ان کی افضلیت کا انکار کوئی جاہل یا متعصب ہی کرے گا، حضرت علی المرتضی ﷺ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مجھے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر فضیلت دیتا ہے، وہ مفتری ہے، میں اسے اپتنے کوڑے ماروں گا جتنے تہمت لگانے والے کو مارے جاتے ہیں، (مکتب ۲۶ دفتر ۲)

..... ۸۴

حضرت سیدنا شیخ عبدال قادر جیلانی علیہ الرحمہ اپنی کتاب غیرۃ الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں اور ایک حدیث نقل کرتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، شبِ معراج میں نے دعا کی کہ میرے بعد خلیفہ علی ﷺ ہو، فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ، جو کچھ اللہ چاہتا ہے، وہی ہوتا ہے، آپ کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ﷺ ہیں، شیخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ (حضرت علی نے فرمایا) اس وقت تک رسول اللہ ﷺ دنیا سے تشریف نہ لے گئے جب تک مجھ سے عہد نہ لیا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ﷺ ہوں گے پھر عمر پھر عثمان

اور پھر تم خلیفہ ہو گے، (مکتب ۷۷، فقر ۲) حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کے منصب پر مہا جرین اور انصار کے اتفاق آراء سے فائز ہوئے تھے، رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد انصار سے چند مقررین نے اپنی تقریروں میں کہا کہ ایک امیر بھی میں سے اور ایک تم میں سے ہو لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے گروہ انصار کی ہم واقف نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امامت کرنے کا حکم دیا تھا، انصار نے بیک زبان ہو کر کہا ہاں! یہ حق ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بتاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بہتر آگے بڑھنے کو کس کامی چاہتا ہے، انصار نے کہا، معاذ اللہ، ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھیں، ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم میں سے کس کامی چاہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جس مقام پر رسول اللہ ﷺ نے کھڑا کیا تھا، وہاں سے ان کو ہٹا دے، پس مہا جرین اور انصار آپس میں متفق ہو گئے اور سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ان میں حضرت علی الرضا رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ بھی تھے، (عبدۃ الطالبین: ۱۹۳)

ہمارے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت واضح نص اور اشارہ دونوں سے ثابت ہے، حضرت حسن بصری اور محمد بن شیعہ کرام کی ایک جماعت کا بھی مسلک ہے، (ایضاً: ۱۹۵)

۴۹

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلم افضلیت شیخین ملت اسلامیہ میں قطعی اور یقینی ہے، برتریب خلافت مشائخ ملاشی کی افضلیت پر اجماع امت ہے، (از ل- الحنفی: ۵۹۵) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد امام مطلق اور حضور اقدس سرہ کے خلیفہ برحق ہیں، پھر عمر فاروق عظیم رضی اللہ عنہ پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر

حضرت مولانا علیؒ (الحیدر آخسن)

(۱۰۶)

حضرت علامہ ثناء اللہ پانیؒ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، یہ ایک اسی معیت ہے جس کی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی، حضرت مرزا مظہر جانجہان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ فی معیت کو جہاں اپنے لئے ثابت کیا وباں حضرت ابو بکر صدیقؓ کے لئے بھی ثابت کیا اور اس میں کوئی فرق قائم نہیں کیا، یہ حضرت صدیقؓ اکبرؓ کے فضل و منزلت پر دلیل ہے، جس نے آپؐ کے فضل و منزلت کا انکار کیا گویا اس نے اس آیت کریمہؓ (۳) ان اللہ معنا ہے کا انکار کیا، (تفیر مطہری ۲۰۷:۳)

(۱۱۶)

حضرت امام محمود آلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جس نے بھی انصاف کی نظرے دیکھا تو سمجھ گیا کہ حضور اکرمؓ نے لا تھزن فرمای کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کو تسلی دی جس طرح (لا یعنیک قولہم) فرمای کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرمؓ کو تسلی دی تھی، یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا حضور اکرمؓ کے نزدیک وہی مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضور اکرمؓ کا مقام ہے، پس حضرت ابو بکر صدیقؓ جیب اللہ کے جیب ہیں، (تفیر روح الہعالی)

(۲۱۶)

حضرت امام عبد الباقی زرقانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، امام بنیانیؒ میہر رحمنے الاعتقاد میں حضرت امام شافعیؒ میہر رحمہ کا فرمان لکھا ہے کہ تمام صلی بے اور تابعین کا اس پر اتفاق ہے کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیقؓ ہے، پھر عمرۃ روقؓ ہے، پھر خشائیؓ ہے، پھر علیؓ ہے، امام ابو منصور بغدادیؒ میہر رحمہ بھی فرماتے

ہیں، ہمارے اصحاب کا اتفاق ہے کہ خلفائے اربعہ سب سے افضل ہیں، ان کے بعد عشرہ مبشرہ کے باقی چھ حضرات افضل ہیں، (زرقاں علی الموالیب ۷۹: ۲۹)

خاص اس سابق سیر قرب خدا
 واحد کا ملیت پہ لاکھوں سلام
 سایہ مصطفیٰ ، مایہ احاطہ
 عزو ناز خلافت پہ لاکھوں سلام
 یعنی اس افضل اخلاق بعد الرسل
 ثانی اشین بھر ت پہ لاکھوں سلام
 اصدق الصادقین سید المتقین
 چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام

.....☆.....

باب نمبر ۶

کلامات
حیران



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حضرت سیدنا صدیق اکبر ﷺ کی زندگی سراں استقامت اور عزیمت کا شہکار تھی، تمام صوفیہ کا اتفاق ہے کہ ﴿الاستقامة فوق الكرامة﴾ استقامت کرامت سے بہتر اور برتر ہے، حضرت شیخ بہاؤ الدین نقشبند بخاری علیہ الرحمہ سے تو یہاں تک منقول ہے، ﴿الاستقامة خير من الف كرامة﴾ ایک استقامت ایک ہزار کرامت سے بھی بہتر اور برتر ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر ﷺ کو استقامت علی الدین کا صدقہ بہت سی کرامات و کمالات سے بھی سرفراز فرمایا تا کہ سب اپنے اور بیگانے دیکھ لیں کہ آپ تکونی امور میں بھی رسول اعظم ﷺ کے نائب اعظم ہیں، اب حصول برکت کے لئے آپ کی چند کرامات حسنة اور کمالات عالیہ کو بیان کیا جاتا ہے،

﴿كُلَّنَّ مِنْ عَظِيمٍ بُرْكَتْ بِهِ...﴾

حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ بارگاہ رسالت کے قیم مہمانوں کو اپنے گھر لائے اور خود حضور اکرم ﷺ کی

صاحبزادی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو وصیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ
میری پیاری بیٹی! آج تک میرے پاس جو میرا مال تھا، وہ آج وارثوں کا مال ہو چکا ہے اور
میری اولاد میں تمہارے دونوں بھائی عبد الرحمن، محمد اور تمہاری دونوں بہنیں ہیں، لہذا تم لوگ
میرے مال کو قرآن کے حکم کے مطابق تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ لے لینا، یہ سن کر حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان! میری تو ایک ہی بہن ”بی بی اسماء“ ہیں، یہ میری دوسری
بہن کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری بیوی ”بنت خارجہ“ جو حاملہ ہے، اس کے شکم میں
لڑکی ہے، وہ تمہاری دوسری بہن ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ”ام کلثوم“
رکھا گیا۔ (ایضاً: ۲۵- بحوالہ تاریخ الخلفاء: ۷۵)

اس حدیث کے بارے میں حضرت علامہ تاج الدین سکی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا
کہ اس حدیث سے امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دو کرامتیں ثابت ہوتی ہیں۔
اول: یہ کہ آپ قبل وفات یہ علم ہو گیا تھا کہ میں اسی مرض میں دنیا سے رحلت کروں گا،
اس لیے بوقت وصیت آپ نے یہ فرمایا ”کہ میرا مال آج میرے وارثوں کا مال ہو چکا ہے“
دوم: یہ کہ حاملہ کے شکم میں لڑکا ہے یا لڑکی، اور ظاہر ہے کہ ان دونوں باتوں کا علم یقیناً
غیر کا علم ہے، یہ بلاشبہ و بالیقین پیغمبر کے جانشین حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
کی دو عظیم الشان کرامتیں ہیں۔ (ازالۃ الخفاء ۲: ۱۲ و جمعۃ اللہ ۸۶۰: ۳)

حدیث مذکورہ بالا اور علامہ تاج الدین سکی علیہ الرحمہ کی تقریر سے معلوم ہوا کہ
(ما فی الارحام) یعنی جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے اس کا علم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
کو حاصل ہو گیا تھا۔ لہذا یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ قرآن مجید کی سورہ لقمان
میں جو (یہ) علم ما فی الارحام (اے) آیا ہے۔ یعنی خدا کے سوا کوئی اس بات کو نہیں جانتا کہ
ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب ہے کہ بغیر خدا کے بتائے ہوئے کوئی اپنی

عقل و فہم سے نہیں جان سکتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ لیکن خداوند تعالیٰ کے بتا دینے سے دوسروں کو بھی اس کا علم ہو جاتا ہے، چنانچہ حضرات انبیاء علیہم السلام وحی کے ذریعے اور اولیائے امت کشف و کرامت کے طور پر خداوند قدوس کے بتادینے سے یہ جان لیتے ہیں کہ ماں کے شکم میں لڑکا ہے یا لڑکی؟ مگر اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی، ازلی وابدی اور قدیم ہے اور انبیاء، اولیاء، کا علم عطایٰ و فانی اور حادث ہے۔ اللہ اکبر۔ کہاں خداوند قدوس کا علم اور کہاں بندوں کا علم، دونوں میں بے انتہا فرق ہے۔ (کرامات صحابہ: ۳۲)

نگاہ کرامت کی فراست جو قبائل عرب مرتد ہو کر اسلام سے پھر گئے تھے ان میں قبیلہ کنده بھی تھا۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس قبیلہ والوں سے بھی جہاد فرمایا اور مجاہدین اسلام نے اس قبیلہ کے سردار اعظم یعنی اشعت بن قیس کو گرفتار کر لیا اور لو ہے کی زنجیروں میں جکڑ کر اس کو دربار خلافت میں پیش کیا۔ امیر المؤمنین کے سامنے آتے ہی اشعت بن قیس نے بآواز بلند اپنے جرم ارتاد کا اقرار کر لیا اور پھر فوراً ہی توبہ کر کے صدق دل سے اسلام قبول کر لیا۔ امیر المؤمنین نے خوش ہو کر اس کا قصور معاف کر دیا اور اپنی بہن حضرت ”ام فردہ“ رضی اللہ عنہا سے اس کا نکاح کر کے اس کو اپنی قسم قسم کی عنائتوں اور نوازوں سے پر فراز کر دیا۔ تمام حاضرین دربار حیران رہ گئے کہ مرتدین کا سردار جس نے مرتد ہو کر امیر المؤمنین سے بغاوت اور جنگ کی اور بہت سے مجاہدین اسلام کا خون ناحق کیا۔ ایسے خونخوار باغی اور اتنے بڑے خطرناک مجرم کو امیر المؤمنین نے اس قدر کیوں نوازا؟ لیکن جب حضرت اشعت بن قیس رضی اللہ عنہ نے صادق الاسلام ہو کر عراق کے جہادوں میں اپنے سر بھلی پر رکھ کر ایسے ایسے مجہد ان کا رہا میں انجام دیے کہ عراق کی فتح کا سہرا نہیں کے سر بہا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہو رخلافت میں

جنگ قادسیہ اور قلعہ مدائن و جلو لا و نہادند کی لڑائیوں میں انہوں نے سرفوشی و جانبازی کے جو حیرت انگریز مناظر پیش کیے، انہیں دیکھ کر سب کو یہ اعتراف کرتا پڑا کہ واقعی امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رض کی نگاہ کرامت نے حضرت اشعث بن قیس رض کی ذات میں پچھے ہوئے کمالات کے جن انمول جو ہروں کو برسوں پہلے دیکھ لیا تھا، وہ کسی اور کو نظر نہیں آئے تھے۔ یقیناً یہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رض کی ایک بہت بڑی کرامت ہے، (کرامات صحابہ: ۲۷۰ جوالہ الازلة الخفا ۳۹:۲)

ای لیے مشہور صحابی حضرت عبد اللہ بن مسعود رض عام طور پر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے علم میں تین ہستیاں ایسی گزری ہیں جو فراست کے بلند ترین مقام پر پہنچی ہوئی تھیں۔

اول: - امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رض کہ ان کی نگاہ کرامت کی نوری فراست نے حضرت عمر رض کے کمالات کو تاز لیا اور آپ نے حضرت عمر رض کو اپنے بعد خلافت کے لیے منتخب فرمایا، اس کو تمام دنیا کے سورجیں اور دانشوریں نے بہترین قرار دیا ہے،

دوم: - حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت صفوار رضی اللہ عنہا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روشن مستقبل کو اپنی فراست سے بھانپ لیا اور اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اس جوان کو بطور اجیر کے اپنے گھر پر رکھ لیں جبکہ انتہائی کسپری کے عالم میں فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسکے ہجرت کر کے مصر سے ”مدین“ پہنچ گئے تھے، چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر پر رکھ لیا اور ان کی خوبیوں کو دیکھ کر اور ان کے کمالات سے متاثر ہو کر اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورا کا ان سے نکاح کر دیا اور اس کے بعد خداوند قدوس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے شرف سے سرفراز فرمادیا۔

سوم: عزیز مصر کہ انہوں نے اپنی بیوی حضرت زینب کو حکم دیا کہ اگرچہ حضرت یوسف علیہ

السلام ہمارے زر خرید غلام بن کر ہمارے گھر میں آئے ہیں، مگر خبردار، تم ان کے اعزاز و اکرام کا خاص طور پر اہتمام و انتظام رکھنا، کیونکہ عزیز مصر نے اپنی نگاہ فراست سے حضرت یوسف علیہ السلام کے شاندار مستقبل کو سمجھ لیا تھا کہ گویا آج غلام ہیں، مگر یہ ایک دن مصر کے بادشاہ ہوں گے۔ (ایہا: ۲۸، بحوالہ تاریخ الخلفاء: ۷۵ و ازالت الخفاء، مقصد: ۲۳۳)

﴿کلمہ طیبہ سے قلعہ مسما رکھ﴾.....

امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قیصر روم سے جنگ کے لیے مجاہدین اسلام کی ایک فوج روانہ فرمائی اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اس فوج پر سالار مقرر فرمایا۔ یہ اسلامی فوج قیصر روم کی لشکری طاقت کے مقابلہ میں صفر کے برابر تھی مگر جب اس فوج نے رومی قلعہ کا محاصرہ کیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ مارا تو کلمہ طیبہ کی آواز سے قیصر روم کے قلعہ میں ایسا ززلہ آگیا کہ پورا قلعہ مسما ہو کر اس کی ایسٹ سے ایسٹ نجح گئی اور دم زدن میں قلعہ فتح ہو گیا بلاشبہ یہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہت ہی شاندار کرامت ہے، کیونکہ آپ نے اپنے دست مبارک سے جھنڈا باندھ کر اور فتح کی بشارت دے کر اس فوج کو جہاد کے لیے روانہ فرمایا تھا، (ازالت الخفاء: ۲۰)

سلام سے دروازہ کھل گیا جب حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقدس بندر دروازہ ایک دم خود بخود کھل گیا اور تمام حاضرین نے قبر انور سے یہ غیبی آواز سنی **ادخلو الحبيب الى الحبيب** یعنی حبیب کو حبیب کے دربار میں داخل کر دو، (تفیر کبیر، ۳۲۸: ۵)

دفن کے بارے میں غیبی آواز کہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

کے وصال کے بعد صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو شہدائے کرام کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے اور بعض حضرات چاہتے تھے کہ آپ کی قبر شریف جنت البقع میں بنائی جائے، لیکن میری دلی خواہش یہی تھی کہ آپ میرے اسی جگہ میں پر دخاک کیے جائیں جس میں حضور اکرم ﷺ کی قبر منور ہے، یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور خواب میں یہ آواز میں نے سنی کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے ﴿ضو الحبیب الی الحبیب﴾ یعنی حبیب کو حبیب سے ملا دو، خواب سے بیدار ہو کر میں نے لوگوں سے اس آواز کا ذکر کیا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ آواز ہم لوگوں نے بھی سنی ہے اور مسجد نبوی کے اندر بہت سے لوگوں کے کافوں میں یہ آواز آئی ہے۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ آپ کی قبر اطہر روضہ منورہ کے اندر بنائی جائے۔ اس طرح آپ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوئے اقدس میں مدفون ہو کر اپنے حبیب کے قرب خاص سے سرفراز ہو گئے، (شوادر المودة ۱۵۰)

**حضرت امام مستقری رحمۃ اللہ علیہ نے ثقات سے نقل
وشن خنزیر و بندر بن گئے**

کیا ہے کہ ہم لوگ تمن آدمی ایک ساتھ یمن جا رہے تھے، ہمارا ایک ساتھی جو کوئی تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رض کی شان میں بذبائی کر رہا تھا، ہم لوگ اس کو بار بار منع کرتے تھے، مگر وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتا تھا، جب ہم لوگ یمن کے قریب پہنچ گئے اور ہم نے اس کو نماز فجر کے لیے جگایا، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ابھی ابھی یہ خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ میرے سرہانے تشریف فرمائے اور مجھے فرمایا کہ اے فاسق! خداوند تعالیٰ نے تجھ کو ذلیل و خوار فرمادیا اور تو اسی منزل میں مسخ ہو جائے گا، اس کے بعد فوراً ہی اس کے دو پاؤں بندر جسے ہو گئے اور تھوڑی دیر میں اس کی صورت بالکل ہی بندر جیسی ہو گئی۔ ہم لوگوں نے نماز فجر

کے بعد اس کو پکڑ کر اونٹ کے پالان کے اوپر رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ غروب آفتاب کے وقت جب ہم ایک جنگل میں پہنچے تو چند بندروہاں جمع تھے۔ جب اس نے بندروں کے غول کو دیکھا تو ری تڑدا کر اونٹ کے پالان سے کو دپڑا اور بندروں کے غول میں شامل ہو گیا۔ ہم لوگ حیران ہو کر تھوڑی دیر وہاں ٹھہر گئے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ بندروں کا غول اس کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بندروں کے پاس بیٹھا ہوا ہم لوگوں کی طرف بڑی حرمت سے دیکھتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ گھڑی بھر کے بعد جب سب بندروہاں سے دوسری طرف جانے لگے تو وہ بھی ان بندروں کے ساتھ چلا گیا (کرامات صحابہ: ۵۲۔ حوالہ شوابہ المعرفۃ: ۱۵۳)

شیخین کا دشمن کتابن گیا اسی طرح حضرت امام مستغفری رحمۃ اللہ علیہ ایک شیخین کا دشمن کتابن گیا بزرگ سے ناقل ہیں کہ میں نے ملک شام میں ایک ایسے امام کے پیچھے نماز ادا کی جس نے نماز کے بعد حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم کے حق میں بددعا کی۔ جب دوسرے سال میں نے اس مسجد میں نماز پڑھی، تو نماز کے بعد امام نے حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم کے حق میں بہترین دعائیں نگی، میں نے مصلیوں سے پوچھا کہ تمہارے پرانے امام کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، آپ ہمارے ساتھ چل کر اس کو دیکھ لیجئے۔ میں جب ان لوگوں کے ساتھ ایک مکان میں پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھ کو بڑی عبرت ہوئی کہ ایک کتاب بیٹھا ہوا ہے اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تو وہی امام ہے جو حضرات شیخین کے لیے بددعا کیا کرتا تھا تو اس نے سر ہلا کر جواب دیا کہ ہاں! (شوابہ المعرفۃ: ۱۵۶)

اللہ تعالیٰ کا دیدار رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں ﷺ کل الناس يقف يوم القيمة
الا ابابکر فان شاء قام وان شاء مغى فانه يعطى كتابه

فِي قَالَ لَهُ أَنْ شَتَّ فَاقْرَءُ وَإِنْ شَتَّ فَلَا تَقْرَءُ وَلَهُ قَبَةٌ فِي اعْلَى عَلَيْنِ مِنْ يَا قُوت
حَمَراءً وَلَهُ أَرْبَعَةَ الْفَالَّا بَابَ كُلُّمَا اشْتَاقَ إِلَى اللَّهِ انْفَتَحَ مِنْهَا بَابٌ فَيَنْظَرُ إِلَى اللَّهِ
بِلَا حِجَابٍ كَمَا قِيَامَتْ كَهْ دَنْ سَبْ لَوْگُونْ كُوكْهَزَارْهَنْےَ كَهْ حَكْمَ هُوْگَا سَوَائےَ ابُو بَكْرَكَ، اَنْ
كُوا خَيَارَهُوْگَا خَواهَ كَهْرَرَےَ رَهِيْسَ يَا وَهَ كَزْرَجَاهَمِيْسَ اُورَيَهَ تِيقَنِيْ بَاتَّهَبَهَ كَهْ جَبَ اَنْ كُونَامَهَ
اعْمَالَ دِيَاجَائَهَ گَأَتَوْانِيْسَ كَهْهَا جَائَهَ گَأَكْرَجَاهَمِيْسَ تَوَسَّهَ پَهِيْسَ اُورَجَاهَمِيْسَ تَوَسَّهَ پَهِيْسَ۔
اوْرَانَ كَهَ لَئَےَ اَيْكَ قَبَرَ (گَنْبَدْنَمَحَلَ) سَرَخَ يَا قَوْتَ كَاعْلَى عَلَيْنِ مِنْ بَنَيَا گَيَا ہَےَ جَسَ كَهَ
چَارَهَزَارَدَرَوازَهَ ہِيْسَ۔ جَبَ بَھِيْ ابُو بَكْرَ ھَنْهَهَ اللَّهُ تَعَالَى ہَيْسَ لَهُنَّےَ لَهُنَّےَ كَهْ مَشْتَاقَ ہُوْنَگَےَ اَنْ
مِنْ سَهَ اَيْكَ درَوازَهَ کَھَلَ جَائَهَ گَأَتَوْ آَپَ اللَّهُ تَعَالَى كَادِيدَارَبَهَ پَرَدَهَ كَرِيْسَ گَےَ۔

☆..... حضور اقدس ﷺ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل امین سے میں نے
دریافت کیا کہ کیا میری امت کا قیامت کے روز حساب ہوگا؟ جبریل نے جواب دیا ہاں
(حساب لیا جائے گا) لیکن ابوبکر سے نہیں، کیونکہ انہیں کہا جائے گا، اے ابوبکر ھند جنت
میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے میں نہیں جاؤں گا جب تک دنیا میں مجھ سے محبت رکھنے والے
میرے ساتھ جنت میں نہ جائیں۔ رب العزت جل شانہ کا فرمان ہوگا، اے ابوبکر اپنے
دوستوں کو بھی بہشت میں لے جاؤ کیونکہ میں نے اس دن وعدہ کر لیا تھا جس دن مجھے
دنیا میں پیدا کیا اور میں نے بہشت کو کہہ دیا تھا جو بھی ابوبکر سے محبت رکھے گاؤہ تیرے
اندر ضرور داخل ہوگا۔ (حضرات القدس، ۱:۳۵)

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْرَمَايَا ۝ لِمَا وَلَدَ ابُو بَكْرَ اطْلَعَ اللَّهُ عَلَى جَنَّةِ عَدْنَ
فَقَالَ وَعَزَّتِي وَجَلَّتِي لَا دَخْلُكَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ هَذَا الْمَوْلُودَ ۝ يَعْنِي جَبَ ابُو بَكْرَ
صَدِيقٌ پَيْدا ہوئے تو خَدَّا تَعَالَى نَفْرَمَايَا نَفْرَمَايَا فِي جَنَّةِ عَدْنَ پَرْ تَحْمِلَ فَرْمَائَی اُورَ ارشاد فَرْمَائَی کَهْ مجھے اپنی
عَزَّتِ اُورَ جَلَّلَ کی قَسْمَ ہے، تَجْهِیز میں صرف اسی کو داخل کروں گا جو اس پچے (ابوبکر) کو

دوست رکھے گا۔ (حضرات القدس: ۳۵، الالی المصنوع: ۲۰۳)

نام صدق اور آفتاب ایک دفعہ رسول اکرم ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا (الا اعطیاً خبرك) قالت بلى قال ان اسم ابیک مکتوب علی قلب الشمس و ان الشمس يقابل الكعبۃ فی کل یوم فتمتنع عن العبور علیها فیز جرها الملک المعنوکل بھا و يقول بحق ما فیک من الاسم اعترفت علیہ اے عائشہ کیا میں تجھے ایک اچھی خبر نہ دوں؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ﷺ آپ نے فرمایا: تیرے باپ کا نام آفتاب کے دل پر لکھا ہوا ہے، بے شک جب آفتاب روزانہ خانہ کعبہ کے مقابل ہوتا ہے، تو اس پر گزرنے سے رک جاتا ہے اس وقت منوکل فرشتہ آفتاب کو ڈانت کر کرتا ہے، اے آفتاب گزر جا اس نام پاک کی برکت سے جو تجھے میں جلوہ گر ہے۔ پھر آفتاب خانہ کعبہ کو عبور کرتا ہے، (حضرات القدس ص: ۳۶۱)


ایک روز حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ "جبب ہنگام قیامت میں بزرگی صدق" قیامت کے روز پل صراط کی دائیں جانب ایک منبر کھا جائے گا۔ تو میں اس پر بیٹھوں گا پھر در امنبر کھا جائے گا اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف رکھیں گے، اس کے بعد دنوں منبروں کے درمیان ایک کری رکھی جائے گی اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ میں بھیس گے۔ پھر ایک فرشتہ آئے گا اور میرے منبر کی ایک سیڑھی پر کھڑا ہو کر یہ آواز دے گا کہ اے مسلمانو! تم میں سے جس نے مجھے پہچانا اس نے تو پہچان لیا اور جس نے نہیں پہچانا اس کو معلوم ہونا چاہئے کہ میں دوذرخ کا داروغہ مالک ہوں، بیشک مجھے خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں دوذرخ کی چابیاں محمد رسول ﷺ کے حوالے کر دوں اور آپ نے مجھ کو فرمایا ہے کہ یہ سنجیاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دے دوں۔ پھر ایک اور فرشتہ آئے گا وہ میرے منبر کی دوسری سیڑھی پر کھڑا ہو کر یہ آواز دے گا، کہ اے مسلمانو! تم میں سے جس نے مجھے پہچانا اس نے تو پہچان لیا اور جس نے نہیں پہچانا اس کو

معلوم ہونا چاہئے کہ میں جنت کا دار و نعم رضوان ہوں۔ بے شک خدا تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بہشت کی کنجیاں محمد رسول اللہ ﷺ کے حوالے کر دوں اور آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ابو بکرؓ دے دوں۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ ہم پر تحلی فرمائے گا اور ارشاد ہو گا: مبارک ہو میرے خلیل (علیہ السلام) اور میرے حبیب (رضی اللہ عنہ) اور صدیق (رضی اللہ عنہ) کو۔ (حضرات اقدس، ۳۷۱)

**شیخ ابو بکر محمد بن عقبہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابو بکر ہرار
ہم نام بزرگ کو خرقہ پہنایا** قدس سرہ ابتدائی عمر میں موضع بطاچ میں راہزن مشہور تھے۔ جب آپ نے سچائی اور اخلاص سے توبہ کی اور سب لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ اپنے آپ کو ایسے شخص کے حوالے کریں جو ان کو خدا تک پہنچا دے۔ اس زمانہ میں عراق میں کوئی مشہور شیخ موجود نہ تھا۔ آپ نے حضرت رسول کریم ﷺ اور ابو بکر صدیق (رضی اللہ عنہ) کو خواب میں دیکھا اور عرض کی ہے اُنہوں نے فرمایا: ﴿بِاللَّهِ أَكْبَر﴾ اے ابن ہرار انا نبیک و هذا شیخک ۱۷۶ اے ابن ہرار میں تیرانجی ہوں اور یہ (ابو بکر) تیرا شیخ ہے، پھر آپ نے حضرت صدیق اکبر (رضی اللہ عنہ) کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا: اے ابو بکر اپنے ہم نام کو خرقہ پہناؤ، حکم کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ عنہ) نے ان کو پیرا ہیں اور ٹوپی پہنائی اور ان پر مبارک ان کی پیشائی اور سر پر پھیرا اور فرمایا: ﴿بَارَكَ اللَّهُ فِيْكَ اللَّهُ تَعَالَى تَحْمِلُ بَرَكَتَ دَوَّ۔ اس کے بعد آں حضرت ﷺ نے فرمایا: اے ابو بکر بن ہرار، تمھے سے میری امت کے اہل طریقت کی سنتیں زندہ ہوں گی اور خدا تعالیٰ کے دوستوں سے ارباب خلائق کی منزلیں مت جانے کے بعد تیری ذات سے استقامت پائیں گی اور عراق کی مشینت قیامت تک تیری وجہ سے قائم رہے گی اور تیرے ظہور کے سب عنایت باری تعالیٰ کی ختنہ ہوائیں چلیں گی، اور حق بجانہ کی مہربانیوں سے خوشنودی کی پیشیں تیری وجہ سے چھلیں گی۔ اس کے بعد ابو بکر بن ہرار بیدار ہو گئے، اور وہی جامہ اور ٹوپی جو حضرت

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عطا فرمایا تھا بعینہ دونوں کو اپنے پاس موجود پایا اور شیخ کے سر مبارک پر جو پھوٹے تھے وہ سب کے سب یک لخت نائب ہو گئے اور جہان میں گویا اعلان کر دیا گیا کہ حَقِيقَةُ شِيَخِ أَبُو بَكْرٍ تَعَالَى سے وصل الی اللہ عَزَّوَجَلَّ یعنی شیخ ابو بکر تعالیٰ سے وصل ہو گئے، ہر طرف سے مخلوق شیخ کی طرف متوجہ ہوئی۔ حق تعالیٰ کی طرف سے شیخ میں قرب الہی کی علامت اور شیخ کے ارشادات کی تصدیق اور سچائی پے درپے ظاہر ہونے لگی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے کئی دفعہ شیخ ابو بکر کے گرد بہت سے شیر بیٹھے ہوئے دیکھے اور بعض اوقات شیخ کے پائے مبارک پر شیروں کو لوٹتے ہوئے دیکھا شیخ ابن ہر اس سے پہلے شیخ ہیں جنہوں نے دور رسالت کے مشائخ کے گزر جانے کے بعد عراق میں مشیخت کی بنیاد ڈالی اور میں ان کا لَهُمْ تَحَا۔ (حضرات القدس ص ۵۶۱)

شیخ علی بن وہب سجاری قدس سرہ کہتے ہیں۔ میں نے وصال کے بعد جلوہ گرمی خواب میں دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے علی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ یہ ٹوپی تجھ کو پہناؤ۔ حضرت نے اپنی آستین مبارک سے ٹوپی نکالی اور میرے سر پر رکھ دی۔ جب میں بیدار ہوا تو بعینہ وہی ٹوپی اپنے سر پر رکھی ہوئی پائی۔ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تکملہ روض الریاحین کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ روضہ مبارک کے پاس مدینہ منورہ میں اس کتاب کے سامع کے وقت حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم تینوں، حضرات تشریف فرماتھے، جب مجلس ختم ہوئی تو میں نے دعا کی حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف رخ انور فرمایا کہ تم سے فرمایا۔ میں نے اس واقعہ کو بیداری میں مشاہدہ کیا۔ (حضرات القدس ص ۱۱۷)



باب نمبر 7

اوڑو کریمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰہ کریم نے کبھی کسی احسان والے کا اجر و ثواب ضائع نہیں فرمایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ محسن اسلام ہیں تہذیب اس بزم کائنات میں ان کے جسمانی اور روحانی چشمے اس شان سے جاری ہوئے کہ قیامت تک تشنہ لبوں کو سیراب کرتے رہیں گے، جہاں آخرت میں بھی ان کا مقام دیدنی ہو گا، اس باب میں آپ کی نسل مبارک کے چند پھولوں کا ذکر کیا جاتا ہے جس کے خوبصورت وجود سے گلستان میں بہار جاؤ داں کا منظر دکھائی دے رہا ہے، ارشاد باری ہے، (وَكَذَلِكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ) اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی خوبصورت بدله عطا کرتے ہیں۔

ام المؤمنین ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دختر حضرت عائشہ صدیقہ پاک ہیں، آپ کی ماں کا نام ام رومان بنت عامر ابن عوییر ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسالم نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا اور نبوت کے دسویں سال نکاح فرمایا، دو ہجری شوال کو مدینہ منورہ میں رخصتی ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر نو سال تھی، نو سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسالم کے ساتھ رہیں، کیونکہ وصال مصطفیٰ کے وقت آپ کی عمر مبارک

اٹھارہ سال تھی، آپ کے سوا کسی کنواری خاتون سے حضور اقدس ﷺ نے نکاح نہ فرمایا، آپ بہت بڑی عالمہ، فاضل، فقیہ، فصیحہ اور عابدہ تھیں، تاریخ عرب اور اشعار عرب پر گہری نظر رکھتی تھیں، حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقۃ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو بھی اشعار کا عالم نہ پایا، بہت سے صحابہ کرام اور تابعین عظام آپ کے شاگرد تھے، مشکل مسائل میں آپ کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، چونکہ آپ رب العالمین کے محبوب کی محبوبہ ہیں اس لئے قرآن کریم کی اٹھارہ آیات آپ کی عزت و عظمت، حرمت و منزلت اور طہارت و صداقت کو بیان کرنے کیلئے نازل ہوئیں،

یعنی سورہ نور جن کی گواہ

انگلی پر نور صورت پر لاکھوں سلام

آپ بہت سی احادیث نبویہ کی روایہ ہیں، خلاصۃ العہذیب میں ہے کہ آپ نے دو ہزار دوسو دس احادیث کو بیان کیا جن میں ایک سو چوہتر متفق علیہ ہیں، آپ کی برکات و حسنات سے آج تک اہل اسلام مستفیض ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، آدھے دین کے مسائل و فوائد آپ کی نسبت سے حاصل ہوئے ہیں، آپ نے سترہ رمضان المبارک کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں وفات پائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نماز جنازہ پڑھانے کا شرف حاصل ہوا، آپ جنت البقع میں مدفون ہیں، آپ کے بہت سے فضائل و خصائص کتابوں میں موجود ہیں، مثلاً:

..... آپ رضی اللہ عنہا کے بستر مبارک پر آپ ﷺ کو وحی آئی۔

..... آپ رضی اللہ عنہا کو حضرت جبریل علیہ السلام نے سلام کیا۔

..... آپ رضی اللہ عنہا حضور اقدس ﷺ کو تین رات خواب میں دکھائی گئیں، آپ کو فرشتہ ریشمی کپڑے میں لا کر عرض کرتا تھا، یہ آپ کی بیوی ہیں، (بخاری و مسلم)

لوگ اپنے تحفوں اور ہدیوں کے لئے جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کا دن تلاش کرتے تھے، اس سے وہ رسول اللہ ﷺ کی رضاچاہت تھے تھے، (بخاری و مسلم)

حضرور اقدس ﷺ نے فرمایا، مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، (ایضاً)

فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں، عرض کیا، ہاں فرمایا، پھر عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کرو، (بخاری و مسلم)

فرمایا، عائشہ کا عورتوں میں وہی مقام ہے جو کھانوں میں شرید کا،

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو فصح و بلغ نہ دیکھا، (ترمذی)

جب رسول اللہ ﷺ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کا سر انور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آغوش میں تھا، یہ وہ لاثانی شرف ہے جو آپ کو نصیب ہوا،

حضرور اقدس ﷺ آپ کی چبائی ہوئی سواک کو استعمال فرماتے رہے،

حضرور اقدس ﷺ کی آخری آرامگاہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جگہ مبارکہ میں ہے رازِ داںِ مصطفیٰ ہیں عائشہ پیکرِ جود و سخا ہیں عائشہ اللہ اللہ عظمت بنت عتیق وارث علم ہدا ہیں عائشہ حضرت صدیق کا عکس جمیل بالیقین سرتا پا ہیں عائشہ جس کی حرمت کا امیں قرآن بھی وہ کمال اجتباء ہیں عائشہ نسبتِ محبوب سے محبوب حق ام عرفان و رضا ہیں عائشہ گو بڑا احتاج ہوں، لا چار ہوں

آپ کے درکا غلام زار ہوں

آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی ہیں حضرت اسماء صدیقہ اور حضور اکرم ﷺ کی ہمشیر نسبتی ہیں، حضور اقدس ﷺ نے

آپ کو ذات النطاقین یعنی دو کمر بند والی کامبارک لقب عطا فرمایا کیونکہ بھرت کی رات آپ نے اپنے کمر بند کے دلکرے کر کے ایک لکڑے سے حضور اقدس ﷺ کے سفر کا تو شہ باندھا تھا اور دوسرا لکڑا اپنے استعمال میں رکھا، آپ کی حضرت زبیر بن عماد رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اس با برکت جوڑے کو حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جیسا فرزند عطا فرمایا، سترہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے تو آپ بھی ایمان لے آئیں، اس طرح آپ کاشمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے، آپ بہت ہی عظیم خاتون تھیں، جنہوں نے قدم قدم پرانے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ کی خدمت سرانجام دی، بھرت کی خوفناک راتوں میں غار ثور پر کھانا پہنچانا آپ کا ایمان افروز کارنامہ ہے، اپنی ہمیشہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دس سال بڑی تھیں، آپ نے سو سال عمر پائی، جب حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تختہ دار پر چڑھایا گیا تو انتہائی بڑھاپے کے عالم میں بھی اپنے لخت جگر کی لاش کو دیکھ کر صبر و استقامت کا مظاہرہ فرمایا، حجاج بن یوسف جیسے حاکم کے سامنے نہایت جرأت و شجاعت کے ساتھ کھڑی رہیں اور اس کے ظالمانہ کردار پر تنقید کی،

حضرت عبد الرحمن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، جو حضرت ام رومان کے لطفن سے پیدا ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سعکے بھائی تھے، غزوہ بدر میں لشکر کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، بعد میں کہنے لگے کہ ابا جان، آپ کتنی بار میری تکوار کے نیچے آئے مگر میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم ایک بار بھی میری تکوار کے نیچے آ جاتے تو میں ہرگز نہ چھوڑتا کیونکہ تم رسول اللہ ﷺ کے خلاف لڑ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے بیٹے کو بھی صحابیت کا شرف عطا فرمایا۔ حدیثیہ کے سال مسلمان ہوئے اور باقی زندگی

اسلام کی خدمت میں بسرا کی، ۲۵ حادثہ کو انتقال فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کی قبر پر تشریف لائیں اور نہایت دردناک اشعار پڑھے،

حضرت عبد اللہ: عبد العزیز کے بطن سے پیدا ہوئے، یہ حضرت اسماء کے حقیقی بھائی تھے، بھرت کے وقت غار ثور میں کفار مکہ کی اطلاعات پہنچاتے رہے، غزوہ طائف میں حضور اقدس ﷺ کے ہمراہ تھے کہ پاؤں میں ابو جن ثقیل کے تیر کا زخم لگا جس سے اللہ کو وفات پائی، آپ پرانے مومنین میں سے ہیں، (امال مص ۲۶)

حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا پہلے حضرت جعفر طیار ﷺ کے نکاح میں حضرت محمد تھیں، ان کی شہادت کے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ سے نکاح فرمایا تو حضرت محمد بن ابی بکر جمعۃ الدواع میں ذوالحکیمہ کے مقام پر پیدا ہوئے، حضرت صدیق اکبر ﷺ کے وصال پر آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی، آپ کی والدہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے حضرت علی المرتضی ﷺ کے ساتھ نکاح فرمایا تو یہ بھی ان کے سایہ لطف و کرم میں آگئے، اس طرح ان کو حضرت علی المرتضی ﷺ سے ظاہری و باطنی فیوضات حاصل کرنے کا بہت موقع میسر آیا۔ خلافت مرتضی ﷺ کے دوران آپ بہت جری اور بہادر تھے، اس لیے ان کا بھرپور ساتھ دیا، حتیٰ کہ شیعان معاویہ کے ہاتھوں ۳۸ سال کی عمر میں شہید ہو گئے، آپ کے لخت جگہ حضرت قاسم بن محمد بہت بڑے عالم و فاضل اور زادہ و عارف ہوئے ہیں جنکی روحانیت سے سلسلہ صدیقیہ نقشبندیہ کافیضان جاری ہوا،

حضرت ام کلثوم حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کی یہ صاحبزادی حضرت جیبہ بنت خارجہ رضی اللہ عنہا کے بطن مکرم سے پیدا ہوئیں، پیدائش کے وقت حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کا وصال ہو چکا تھا، آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اس

صاحبزادی کی خبر دی تھی کہ میرے بعد وہ پیدا ہوگی اور اسے بھی وراثت سے حصہ عطا کرنا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے جلیل القدر صحابہ اور صحابیات کی زیارت کی ہے، اس لیے ان کا شمار تابعین عظام میں ہوتا ہے۔

- اب تاریخ اسلام کی چند نامور شخصیات کے اس اگرامی رقم کیے جاتے ہیں جنہیں حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کی نسل پاک میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہے،
- ۱..... حضرت شیخ ابوالنجیب عبد القاہر سہروردی متوفی ۳۵۵ھ مدفون بغداد شریف،
 - ۲..... حضرت محمد مبارک شاہ المعرف فخر مدبر متوفی ۱۲۳۱ھ
 - ۳..... حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی متوفی ۶۳۲ھ مدفون بغداد شریف
 - ۴..... حضرت مولانا جلال الدین رومی متوفی ۷۸۷ھ مدفون قونیہ
 - ۵..... حضرت شیخ فخر الدین عراقی متوفی ۶۸۸ھ مدفون دمشق
 - ۶..... حضرت شیخ عبداللہ شطاطری ماندواری متوفی ۱۰۰۱ھ مدفون قلعہ مانڈو
 - ۷..... حضرت شیخ احمد بن شیخ حامد صدیقی متوفی ۱۰۵۹ھ
 - ۸..... حضرت احمد بن ابوسعید المعروف طاجیون متوفی ۱۱۳۰ھ مدفون امیشہ
 - ۹..... حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی متوفی ۱۲۲۲ھ مدفون دہلی
 - ۱۰..... حضرت شیخ نظام الدین اور گ آبادی متوفی ۱۲۲۱ھ
 - ۱۱..... حضرت شیخ فخر الدین محبت النبی دہلوی متوفی ۱۱۹۹ھ مدفون دہلوی
 - ۱۲..... حضرت مولانا رحمان علی صدیقی متوفی ۱۳۲۵ھ مدفون احمد آباد
 - ۱۳..... حضرت مولانا غلام قطب الدین چشتی متوفی ۱۲۳۳ھ مدفون دہلی
 - ۱۴..... حضرت مولانا شاہ عبد العلیم میرٹھی متوفی ۱۳۲۷ھ مدفون جنت البقیع مدینہ منورہ
 - ۱۵..... حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی مدفون کراچی

..... ۱۶ حضرت مولانا احمد حسین امرد ہوی متوفی ۱۲۳۴ھ مدفن دہلی
رحمۃ اللہ علیہم

ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿حتیٰ اذَا بَلَغَ اشْدَهُ ... من صدیق اکبر کی دعا المسلمین﴾ یہاں تک کہ جب وہ اپنے زور کو پہنچا اور چالیس برس کا ہوا، عرض کی اے میرے رب میرے دل میں ڈال کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی اور میں وہ کام کروں جو مجھے پسند آئے اور میرے لیے میری اولاد میں صلاح رکھ، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں مسلمان ہوں، (سورۃ الاحقاف ۱۵) حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

”یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، آپ کی عمر سید عالم ﷺ سے دو سال کم تھی، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر اقتضی سال کی تھی جب آپ ایمان لائے، عمر چالیس کی ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، آپ کی یہ دعا مستجاب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن عمل کی وہ دولت عطا فرمائی کہ تمام امت کے اعمال آپ کے ایک عمل کے برابر نہیں ہو سکتے، یہ دعا بھی مستجاب ہوئی کہ آپ کی اولاد میں صلاح رکھی، آپ کی تمام اولاد موسن ہے، آپ کے والدین، صاحبزادے، صاحبزادیاں اور پوتے سب موسن اور سب شرف صحابیت (اور تابعیت) سے مشرف صحابہ (اور تابعی) ہیں، آپ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کو یہ فضیلت حاصل ہو (ملخصاً خزانہ العرفان ص ۶۵۲)

اے اللہ اپنے صدیق کی اس دعا اور اسکی قبولیت کا صدقہ ہماری دعا میں بھی قبول فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمادے، ہماری اولاد میں صلاح رکھ دے، ہم بھی تیری بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیرے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ ﷺ کے طفیل مسلمان ہیں، ہمیں حسن آخرت سے سرفراز فرمادے، اور اس کتاب کو رقم الحروف کے لیے، ناشر اور تمام قارئین کرام کے لیے وسیلہ نجات بنادے،

باب نمبر 8

نظم الخلاف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ملکی نظم و نق کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے ضروری ہے کہ مختلف عہدوں پر مناسب اور موزوں آدمیوں کا تقرر کیا جائے۔ حضرت ابو بکر رض نے پوری مملکت کو متعدد صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ خاص خاص صوبے اور ضلعے یہ تھے۔

مدینہ منورہ، مکہ معظمه، طائف، صنعا، حضرموت، خولان، زبیدہ، جند، بحرین، نجران، دومة الجندل، عراق عرب، جرش، جمص، اردن، دمشق، فلسطین۔

حضرت ابو بکر صدیق رض نے میخہ مال کو صیخہ فوج سے الگ کر دیا تھا اور ہر ایک کے لیے الگ الگ امیر مقرر فرمائے تھے جو امیر المخراج اور امیر الشور کے لقب سے ممتاز تھے اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک ایک صوبہ یا ضلع مخصوص کر دیا تھا۔

صوبے یا ضلعے کے حاکم کو عامل کہا جاتا تھا۔ شروع شروع میں وہ ہر قسم کے فرائض انجام دیتا تھا البتہ جب فتوحات میں وسعت ہوئی اور کام بہت پھیل گیا تو فرائض اور ذمہ داریوں کو مختلف عہدوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رض نے عمال

کے تقریب میں حسب ذیل اصول پیش نظر رکھئے:

۱..... جو اصحاب عہد رسالت میں عامل مقرر ہوئے تھے۔ انہیں اپنے عہدوں پر بحال رکھا،
۲..... ان کے علاوہ جو عمال یا امراء مقرر کیے اس میں کسی قسم کی رو رعایت سے کام نہیں لیا اور جس
کسی کو ذمہ داری کے عہدے پر مقرر فرمایا اس کو اقرباء پروری سے اجتناب، خوف خدا اور سلامت
روی کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ حضرت یزید بن ابی سفیان رض کو شام بھیجا تو ان کو ہدایت کی کہ اپنے
قرابت داروں کے ساتھ ترجیحی سلوک ہرگز نہ کرنا کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص
مسلمانوں کا والی ہو اور ان پر کسی کو بلا استحقاق رعایت کے طور پر افسر بنا دے تو اس پر خدا کی لعنت
ہوگی۔ خدا اس کا کوئی عذر اور فدیہ قبول نہ فرمائے گا یہاں تک کہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔

حضرت عمرو بن العاص اور ولید بن عقبہ کو قبیلہ قضاۓ پر محصل صدقہ بنا کر بھیجا تو ان الفاظ میں نصیحت فرمائی:

”خلوت اور جلوت میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسی سبیل اور رزق کا ایسا ذریعہ پیدا کر دیتا ہے جو کسی کے تصور میں بھی نہیں آسکتا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کا اجر کثیر کر دیتا ہے۔ بے شک مخلوق خدا کی خیر خواہی بہترین تقویٰ ہے۔ تم اللہ کی ایک ایسی راہ میں ہو جس میں افراط و تفریط اور ایسی چیزوں سے غفلت کی گنجائش نہیں جن میں دین کا استحکام اور امر (خلافت) کی حفاظت مضر ہے۔ اس لیے ستی اور تغافل سے اجتناب کرنا۔“ (بُطْرِيٰ: ۲۰۸۳)

۳... کسی بد ری صحابی کو عامل نہیں بناتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں، اصحاب بد را پنے بہترین اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے

اور صلحاء کے ذریعہ سے امتوں کی مصیبت اور عذاب کو اس سے زیادہ دفع کرتا ہے جتنی ان (امور حکومت) میں مدد حاصل ہو سکتی ہے۔

۳۔ عمال و حکام کی معمولی یا اجتہادی غلطیوں سے چشم پوشی کرتے تھے لیکن کسی سمجھیں غلطی کو معاف نہیں کرتے تھے اور سخت باز پرس کرتے تھے۔

۴۔ جو لوگ فتنہ ارتدا و میں خوٹ بوجئے تھے اور بعد میں تائب ہو گئے تھے ان کو کوئی ذمہ داری کا کام سونپنا پسند نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ ان کو فوج میں شامل ہونے کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے، البتہ بعد میں انہوں نے اس اصول میں لپک پیدا کر لی اور امراء فوج کو اجازت دے دی کہ توبہ کرنے والے جس شخص کے خلوص اور ایمان کی پختگی کا ان کو یقین آجائے اس کو فوج میں شامل کر لیں۔

۵۔ عمال (گورنروں) کو عمومی طور پر جو فرائض سونپے ان کی تفصیل یہ ہے:

اپنے علاقہ میں اسن ولماں قائم رکھنا، لوگوں کی اخلاقی حالت سدھارنا، لوگوں کو نماز پڑھانا اور جمعہ کا خطبہ دینا، محصولات کو جمع کرنا، حدود کو نافذ کرنا، حج پر جانے والے قافلوں کی حفاظت کرنا، کسانوں کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا اور زراعت کو ترقی دینا۔ فوج کی نگرانی کرنا، اس میں مال غنیمت تقسیم کرنا اور مال غنیمت کا خس مرکز کو بھیجننا۔ (غیفار رسول ص)

عماائد حکومت اور افران فوج تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں عہد صدیقی

ملئے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے:

مرکز خلافت (مذینہ منورہ)

۱۔ مشیر خصوصی ----- حضرت عمر فاروق رض

۲۔ قاضی حکومت (قاضی القضاۃ یا چیف جسٹس) ----- حضرت عمر فاروق رض

- ۳۔ مہتمم خزانہ ————— امین الامر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح
- ۴۔ کتاب ————— حضرت عثمان غنی، حضرت زید بن ثابت انصاری
کبھی کبھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی خط و کتابت کا کام کر لیتے تھے۔
- ۵۔ ارباب افقاء ————— حضرت علی، حضرت عبد اللہ بن مسعود،
حضرت معاذ بن جبل انصاری، حضرت ابی بن کعب انصاری
حضرت زید بن ثابت انصاری۔ یہ حضرات فتویٰ بھی دیتے تھے اور قضا کا
کام بھی کرتے تھے۔

﴿ علاقوں کے عمال اور مصلیئں ﴾.....

- ۱۔ مکہ معظمه ————— حضرت عتاب بن اسید
- ۲۔ طائف ————— حضرت عثمان بن ابی العاص ثقی
- ۳۔ صنعا (یمن) ————— حضرت مهاجر بن ابی امیہ
- ۴۔ حضرموت ————— حضرت زیاد بن لبید انصاری
- ۵۔ خولان (یمن) ————— حضرت عطی بن معیہ
- ۶۔ زبید درمغ (یمن) ————— حضرت ابو موسیٰ اشعری
- ۷۔ جند (یمن) ————— حضرت معاذ بن جبل انصاری
- ۸۔ بحرین ————— حضرت علاء حضری
- ۹۔ نجران ————— حضرت جریر بن عبد اللہ الجبلی
- ۱۰۔ عمان ————— حضرت حذیفہ بن حصن
- ۱۱۔ جرش ————— حضرت عبد اللہ بن ثور
- ۱۲۔ دومة الجندل ————— حضرت عیاض بن غنم

۱۲۔ عراق عرب حضرت شنی بن حارثہ
 ۱۲۔ نجد (قبائل ہوازن) حضرت سعد بن ابی وقاص
 } سپہ سالاران عساکر }

۱۔ حضرت خالد بن ولید مرتدین کے خلاف بھیجے
 جانے والی ایک فوج اور عراق عرب کو بھیجے جانے والے لشکر کے سالار اعلیٰ
 ۲۔ حضرت جریر بن عبد اللہ المکھلی نجران جانے والے لشکر کے سالار اعلیٰ
 ۳۔ حضرت عیاض بن غنم دومہ الجندل کی فوجی مہم کے سالار اعلیٰ
 ۴۔ حضرت شنی بن حارثہ شیبانی بالائی عرب (عراق عرب)
 کی چھاپہ مارفوج کے سالار اعلیٰ
 ۵۔ حضرت سوید بن قطبہ عجمی زیرین عرب عراق کی چھاپہ
 مارفوج کے سالار اعلیٰ
 ۶۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح شام پر حملہ کرنے والی فوج کے سالار اعلیٰ
 } سالاران عساکر }

۱۔ حضرت یزید بن ابی سفیان محاڑ شام پر جانے والے ایک لشکر کے سالار۔
 ۲۔ حضرت شرجیل بن حسنة محاڑ شام پر جانے والے ایک لشکر کے سالار۔
 ۳۔ حضرت عمرو بن العاص محاڑ شام پر جانے والے ایک لشکر کے سالار۔
 ۴۔ حضرت ثابت بن قیس النصاری نجدی باغیوں کے خلاف بھیجے
 گئے لشکر میں انصاری دستے کے سالار۔

۵۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان محاڑ شام کی عقبی فوج کے سالار
 ۶۔ حضرت عکرمہ بن ابی جہل محاڑ شام کی عقبی فوج کے سالار

- ۷۔ حضرت صفوان بن امنیہ رضی اللہ عنہ۔ مجاز شام کی عقبی فوج کے سالار
- ۸۔ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ۔ مجاز شام کی عقبی فوج کے سالار
- ۹۔ حضرت ہاشم بن عقبہ رضی اللہ عنہ۔ مجاز شام پر جانے والی کمکتی فوج کے سالار
- ۱۰۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ۔ مجاز شام پر جانے والی کمکتی فوج کے سالار
- ۱۱۔ حضرت قیس بن مکحوم مرادی رضی اللہ عنہ۔ مجاز شام پر جانے والی کمکتی فوج کے سالار
- ۱۲۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ۔ مجاز شام پر جانے والی کمکتی فوج کے سالار
- ۱۳۔ حضرت معن بن یزید سلیمانی رضی اللہ عنہ۔ مجاز شام پر جانے والی کمکتی فوج کے سالار
- ۱۴۔ حضرت حمزہ بن مالک ہمدانی رضی اللہ عنہ۔ مجاز شام پر جانے والی کمکتی فوج کے سالار
- ۱۵۔ حضرت جبیر بن مسلمہ رضی اللہ عنہ۔ مجاز شام پر جانے والی کمکتی فوج کے سالار
- ۱۶۔ حضرت صحاک بن قیس رضی اللہ عنہ۔ مجاز شام پر جانے والی کمکتی فوج کے سالار

﴿ بعض دوسرے مشہور افراد فوج ﴾.....

- ۱۔ حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ عنہ
- ۲۔ حضرت ذوالکلام حمیری رضی اللہ عنہ
- ۳۔ حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ
- ۴۔ حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ
- ۵۔ حضرت قعقار بن عمر ویسی رضی اللہ عنہ
- ۶۔ حضرت ضحاک بن سفیان کلبی رضی اللہ عنہ
- ۷۔ حضرت علقہ بن مجرز رضی اللہ عنہ
- ۸۔ حضرت زیاد بن حنظله سعیی رضی اللہ عنہ

- ٩۔ حضرت عمادہ بن منشی
 - ١٠۔ حضرت سمعط بن اسود
 - ١١۔ حضرت ابوالاعور بن سفیان سلیمانی
 - ١٢۔ حضرت امراء القیس بن عابس کندی
 - ١٣۔ حضرت عمر و بن عبیرہ سلیمانی
 - ١٤۔ حضرت مذعور بن عدی جملی
 - ١٥۔ حضرت یزید بن سخنی
 - ١٦۔ حضرت قیس بن عمر و
 - ١٧۔ حضرت ابن ذی الحمار
 - ١٨۔ حضرت ضرار بن الا زورا سدی
 - ١٩۔ حضرت قباث بن اشیم (مقدمہ الحجش کے کماڈر)
 - ٢٠۔ حضرت جاریہ بن عبد اللہ اشجعی
 - ٢١۔ حضرت عتبہ بن ربیعہ سلیمانی
 - ٢٢۔ حضرت حوشب ذو ظلمیم سینی
 - ٢٣۔ حضرت لقیط بن عبد القیس
 - ٢٤۔ حضرت ابوسفیان بن حرب (فوج میں آیات جہاد پڑھنے والوں کے مہتمم)
 - ٢٥۔ حضرت ابوالدرداء النصاری (قاضی عسکر)
 - ٢٦۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود بذریعی (مال غنیمت کے انچارج)
- (خطیۃ رسول ص: ۳۸۲۳۸۵)

تعزیرات و حدود مختلف جرائم کی سزا اور نفاذ حدود میں حضرت ابو بکر صدیق رض نے اہم کردار ادا کیا، انہوں نے پولیس و احتساب کا کوئی مستقل محاکمہ قائم نہیں کیا البتہ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت اور برائیوں کے انسداد کا ہمیشہ خاص خیال رکھا۔ اس سلسلے میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رض کو نگران عام مقرر فرمایا اور بعض جرام کی سزا میں معین کر دیں۔

عہد رسالت میں شارب خمر (شراب نوش) کے لیے کوئی خاص سزا معین نہیں تھی بلکہ حسب موقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرابی کو (ہاتھوں اور جوتوں سے) پنواہیتے تھے تاکہ وہ نادم ہو کر آئندہ کے لیے توبہ کر لے اور کسی چالیس کوڑے لگادیتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رض نے اپنے عہد خلافت میں شرابی کے لیے چالیس کوڑوں کی سزا لازمی کروی۔ (منڈابوداؤ دکتاب المحدود)

سرقة کی سزا میں قرآن حکیم میں منصوص ہیں اس لیے اس کی نسبت اختلاف نہیں ہو سکتا البتہ سرقہ کی بعض خاص صورتیں بھی پیش آسکتی ہیں جن کی قرآن حکیم میں تخصیص نہیں کی گئی۔ ایسی صورتوں میں حضرت ابو بکر صدیق رض سنت نبوی کی روشنی میں فیصلہ کرتے تھے اور اگر ایسی مثال نہ ملتی تو اجتہاد سے کام لیتے تھے۔ اگر چور نا بالغ ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق رض اس پر حد جاری نہیں کرتے تھے۔

سین قسم کے قومی جرائم پر حضرت ابو بکر صدیق رض نہایت سخت سزا دیتے تھے۔ یاس بن عبد یا لیل سلمی نے ارتاد سے توبہ کرنے کے بعد بد عہدی کی اور رہزی اختریار کر لی اس نے بے گناہ مسلمانوں کو بے در لغ لوثا اور قتل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رض کو اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت طریفہ بن حاجز رض کو حکم بھیجا کہ یاس کو گرفتار کر کے آگ میں زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اسی کے مطابق عمل کیا۔

ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رض نے حضرت ابو بکر صدیق رض کو لکھا کہ نواح

مذینہ کا ایک شخص علمت بہنہ میں بتلا ہے۔ اہل عرب کے لیے یہ ایک انوکھا فعل تسبیح تھا جس کی قرآن و حدیث میں کوئی سزا متعین نہیں کی گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رض نے تمام صحابہ کرام رض سے مشورہ کیا۔ حضرت علی رض نے جلانے کی رائے دی اور تمام صحابہ کرام رض نے اس پر اتفاق کیا۔ (خلفیۃ الرسول ص ۳۸۶، حوالہ خلفاء راشدین الرغیب والترہب جلد ۲ ص ۱۱۶)

حضرت ابو بکر صدیق رض کو اشاعت اسلام میں شروع ہی سے اشاعت اسلام غیر معمولی انہماں تھا۔ بعثت نبوی کے ابتدائی زمانے میں ان کی تبلیغی مساعی کی بدولت قریش کے بہت سے سر برآ اور دہ لوگ دولت ایمان سے بہرہ یاب ہوئے۔ ابن اثیر رحمہ اللہ نے ”اسد الغاہ“ میں لکھا ہے:

”قریش کے لوگ حضرت ابو بکر صدیق رض کے پاس آتے رہتے تھے اور متعدد وجوہ مثلاً علم، تجربہ اور حسن مجالست کی بنا پر ان سے محبت کرتے تھے۔ چنانچہ ان آنے والوں اور ساتھ بیٹھنے والوں میں جن لوگوں پر ان کو اعتماد تھا، ان کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور جیسا کہ مجھے معلوم ہوا ہے ان کے ہاتھ پر حضرت زبیر بن المعاویہ رض، حضرت عثمان بن عفان رض اور حضرت طلحہ بن عبد اللہ رض اسلام لائے۔“

بعض دوسرے ارباب سیر نے ان بزرگوں کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف رض، حضرت سعد بن ابی وقاص رض، حضرت ارقم بن ابی الا رقم رض، حضرت عثمان بن مظعون رض اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد کے نام بھی لیے ہیں گویا یہ سب اصحاب حضرت ابو بکر صدیق رض کی مساعی جمیلہ کی بدولت حلقة گوش اسلام ہوئے۔ اپنے عہد خلافت میں بھی انہوں نے اشاعت اسلام پر بھر پور توجہ دی۔ حضرت شٹی بن حارثہ رض مدینہ آئے تو ان کو ہدایت کی کہ اپنے قبیلے (بنو شیبان) کے کافروں کو

اسلام کی دعوت دیں اور اپنے پڑوی قبائل کے بہت پرستوں اور عیسایوں میں بھی اسلام کی تبلیغ کریں۔ چنانچہ حضرت شیخ کی تبلیغ و ترغیب کے نتیجے میں ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں جوفوجیں روشنہ کیس انہیں بدایت کی کہ سب سے پہلے فرقہ مخالف کو اسلام کی دعوت دیں اس کے علاوہ جو عرب قبائل عراق اور شام کی سرحدوں کے اردو گرد آباد ہیں ان میں اسلام کی اشاعت کے لیے پوری کوشش کریں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رض کی تبلیغی مساعی کی بدولت عراق عرب اور حدود شام کے بہت سے عرب قبائل مسلمان ہو گئے۔ (خلفیۃ الرسول ص ۳۸۷، ۳۸۸)

رسول اکرم ﷺ نے زمانہ چاہیت کے جن عقائد و رسوم چاہیت کا انسداد اعمال کو مٹا دیا تھا اگر کبھی وہ صحابہ کرام رض کے سامنے رونما ہوتے تو وہ نہایت سختی سے ان کی ممانعت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رض کا بھی یہی معمول تھا۔ ایک وفہرجم کے موقع پر انہیں بتایا گیا کہ قبیلہ الحس کی فلاں عورت کسی سے گفتگو نہیں کرتی انہوں نے اس کی وجہ پوچھی تو لوگوں نے کہا کہ اس نے خاموش حج کا ارادہ کیا ہے۔ یہ سن کر اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا ”یہ چاہیت کا طریقہ ہے، اسلام میں جائز نہیں تم اس سے بازاً اور بات چیت کرو۔“ (خلفیۃ الرسول ص ۳۸۸ بحوالہ صحیح بخاری باب ایام الجہلیۃ)

ذمی رعایا کے حقوق کسی اسلامی ملک میں رہنے والے غیر مسلم اگر اسلامی حکومت کی اطاعت قبول کر لیں اور جزیہ دینے کی حتمی بھر لیں تو وہ ذمی کہلاتے ہیں۔ اسلامی حکومت ان کی جان، مال، زمین اور عبادات گاہوں کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے اور ساتھ ہی ان کی مذہبی آزادی کی ضامن ہوتی ہے۔ فی الحقيقة اسلام کا صاف حکم یہ ہے کہ ان لوگوں کے بنیادی حقوق وہی ہوں گے جو مسلمانوں کے ہوں گے۔ یعنی جان و مال عزت و آبرو اور نجی زندگی کا تحفظ، عقیدہ کی آزادی، مذہبی

دلازاری سے تحفظ اور حاجت مندوں، مسکینوں اور معدودوں کے لیے وسائل ریاست سے ممتنع ہونے کا حق وغیرہ۔ غیر مسلم قوموں کے ساتھ سیاسی اور تبدیلی تعلقات کی ابتداء عہد رسالت ہی میں ہو گئی تھی۔ خیبر فتح ہوا تو حضور اکرم ﷺ نے یہود خیبر سے ایک معاهده صلح کیا جس کے آخری الفاظ یہ تھے:

”اس معاهدہ کی رو سے ان کے مال، جان، زمین، مذهب، حاضر،
عائب، قبیلہ اور گرجوں کی حفاظت کی جائے گی نیز ہر اس تھوڑی بہت
چیز کی حفاظت کی جائے گی جو ان کے قبضہ میں ہے۔ کسی پادری، کسی
راہب اور کسی کامن کو اس کے عہدے سے الگ نہیں کیا جائے گا۔“
(کتاب الخراج لقاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ)

حضرت ابو بکر صدیق رض نے اپنے عہد خلافت میں اس معاهدے کو نہ صرف
تجسمہ برقرار کھا بلکہ اپنے دستخط و مہر سے اس کی توثیق و تجدید فرمائی۔ اسی طرح خود ان
کے عہد میں جو علاقے فتح ہوئے وہاں کی ذمی رعایا کو تقریباً وہی حقوق دیئے جو ہر
مسلمان کو حاصل تھے۔

عہد صدیقی میں حضرت خالد بن ولید رض نے حیرہ فتح کیا تو وہاں کے
عیساویوں سے ایک معاهدہ کیا جس کی قابلِ لحاظ شرطیں یہ تھیں:

”ان کی خانقاہیں اور گرجے نہ گرائے جائیں گے اور نہ کوئی ایسا قصر گرایا
جائے گا جس میں وہ ضرورت کے وقت دشمنوں کے مقابلے میں قلعہ بند
ہوتے ہیں اور وہ رات دن میں بجز اوقات نماز کے ہر وقت ناقوس بجا
سکیں گے اور اپنے تہوار کے دن صلیب نکال سکیں گے۔ جو بوڑھا شخص
بیکار ہو جائے گا یا اس کا جسم ماؤف ہو جائے گا یا کوئی متمول شخص اس قدر
محاج ہو جائے گا کہ اس کے ہم مذهب لوگ اس کو صدقہ دینے لگیں گے تو

اس کا جزیہ معاف کر دیا جائے گا اور اس کی اور اس کے عیال کی کفالت بیت المال سے کی جائے گی۔ (خلفیۃ الرسول ص ۳۹۰ بحوالہ کتاب الخراج)

حضرت ابو بکر صدیق رض اپنے رسول اکرم ﷺ کے وعدوں کی تکمیل آپ کو رسول اللہ ﷺ کا خلیفہ کہتے تھے اس لیے وہ ہر ایسے کام کی تکمیل اپنا فرض سمجھتے تھے جو حضور انور رض کی رحلت کی وجہ سے ادھورا رہ گیا تھا۔ حضور رض نے جیش اسامہ رض کو روانہ ہونے کا حکم دیا لیکن وہ آپ رض کی وفات کی وجہ سے روانہ نہیں ہو سکا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رض نے سری آراء خلافت ہو کر سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جیش اسامہ رض کو مدینہ منورہ سے اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا۔

حضور رض نے اپنی حیات طیبہ میں بعض اصحاب سے (کچھ مال دینے کے) وعدے کیے تھے لیکن ابھی ان وعدوں کی تکمیل کی نوبت نہ آئی تھی کہ آپ رض کا وصال ہو گیا۔ عہد صدیقی میں بھرین سے مال غنیمت آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رض نے اعلان عام کر دیا کہ اگر رسول اللہ رض نے کسی سے کوئی (مال دینے کا) وعدہ کیا ہو یا حضور رض کے ذمہ کسی کا کچھ نہ کھتا ہو تو وہ میرے پاس آئے۔۔۔۔۔ اس اعلان پر حضرت جابر بن عبد اللہ النصاری رض نے حاضر ہو کر عرض کی:

”رسول اللہ رض نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب فلاں جگہ سے مال آیا تو میں تمیں دفعہ دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر دوں گا۔“

حضرت ابو بکر صدیق رض نے ان کو اسی طرح تمیں دفعہ دونوں ہاتھوں سے عطا فرمایا، حضرت ابو شیراز مانی رض نے حاضر ہو کر بیان کیا کہ حضور انور رض نے مجھے اتنا مال دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ خلیفۃ الرسول رض نے انہیں چودہ سو درہم عطا فرمائے۔ ایک اور صاحب نے (جن کا نام ایک روایت میں ابن ابی شجع آیا ہے) حاضر ہو کر کہا:

”مجھ سے رسول ﷺ نے وعدہ فرمایا تھا کہ بھرین سے مال آیا تو (دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے) اتنا اور اتنا دوں گا۔“

حضرت ابو بکر صدیق رض نے فرمایا ”اچھا تو دونوں ہاتھوں سے اٹھا لو۔“ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اٹھائے تو پانچ سو درہم نکلے۔ حضرت ابو بکر صدیق رض نے انہیں پانچ بھوڑہم مزید عطا فرمائے۔ (خلیفۃ الرسل ص ۲۹۱)

عہد رسالت میں صیغہ مال کا کوئی باقاعدہ مکملہ نہ تھا تاہم رسول اکرم ﷺ نے مالی نظام آمدنی اور خرچ کا ایک سادہ سانظام وضع فرمادیا تھا۔ حضرت ابو بکر رض نے اسی نظام کو برقرار رکھا۔ عہد صدیقی میں آمدنی کے بڑے بڑے ذرائع اور مصارف کی تفصیل یہ ہے:

زکوٰۃ
صرف صاحب نصاب مسلمانوں پر فرض تھی اور وہ نقد روپیہ، پھل اور پیداوار اسباب تجارت اور مویشی (بجز گھوڑا) کی صورت میں وصول کی جاتی تھی۔ دو درہم چاندی، بیس مشقال سونے، پانچ اونٹ اور ۵ وسق پیداوار کم پر زکوٰۃ نہ تھی۔ سونے اور چاندی کا چالیسوں حصہ وصول کیا جاتا تھا۔ رسول اکرم ﷺ نے مویشیوں کی شرح زکوٰۃ مختلف جنس کی مختلف تعداد پر الگ الگ مقرر فرمادی تھی۔ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے ”سیرۃ النبی ﷺ“ میں لکھا ہے کہ:

”محصلین زکوٰۃ کو ایک فرمان عطا ہوتا تھا جس میں بصریح بتایا جاتا کہ کس قسم کے مال کی کتنی تعداد میں زکوٰۃ کی کیا مقدار ہے۔ چھانٹ کر مال لینے یا حق سے زیادہ لینے کی اجازت نہ تھی۔“

حضرت ابو بکر صدیق رض نے اسی کے مطابق عمل کیا اور ایک فرمان تمام عمال زکوٰۃ و صدقات کے پاس روانہ کیا جس میں جانوروں کی زکوٰۃ کے متعلق مفصل ہدایات و احکام تھے (خلیفۃ الرسل ص ۲۹۳)

مسلمانوں کی مملوکہ زمینوں کی پیداوار پر عشر مقرر تھا۔ جن زمینوں کے
عشر جو تنے اور بونے میں کاشتکاروں کو کم محنت کرنی پڑتی تھی اور جن کی
سیرابی ندی نالوں کے پانی سے ہوتی تھی یا جن سے موئی خصوصیات کے باعث
کاشتکاروں کو زیادہ مشقت کیے بغیر پیداوار حاصل ہوتی تھی۔ ان زمینوں کی پیداوار
کا ۱/۱۰ حصہ عشر مقرر تھا۔ دوسری قسم کی اراضی (جس کی سیرابی کے لیے پانی کا خاص
انتظام کرتا پڑتا تھا) اس کی پیداوار کا ۱/۲۰ حصہ (یعنی نصف عشر) مقرر تھا۔ عشر روپیہ
یا جنس کسی بھی صورت میں دیا جاسکتا تھا۔ بزری پر کوئی عشر نہ تھا۔ (خلفیۃ الرسول ص ۳۹۲)

غير مسلم کاشتکاروں سے حق مالکانہ کے معاوضہ میں زمین کی پیداوار کا
خارج جو حصہ باہمی مصالحت سے معین ہو جاتا تھا اس کو خراج کہا جاتا تھا۔

عہد رسالت میں خیر اور فدک کی زمینوں کو اس شرط پر مالکوں کے پاس رہنے دیا گیا کہ وہ
پیداوار کا نصف حصہ حضور ﷺ کی خدمت میں بھیجا کر دیں گے۔ بٹائی کے اس طریقے کو
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی قائم رکھا۔ البته جب عراق اور شام کے بعض علاقوں فتح
ہوئے تو خلیفۃ الرسول نے ان پر سری طور پر کچھ رقم بطور خراج مقرر کر دی۔ (ایضاً ص ۳۹۲)

غير مسلم رعایا سے ان کی حفاظت اور ذمہ داری کے معاوضہ میں لیا جاتا
جزیہ تھا۔ اس کی شرح متعین نہیں تھی بلکہ سہولت کے ساتھ جو شخص جتنا دے
سکتا تھا اس سے اتنا ہی لیا جاتا تھا۔ عہد صدیقی میں حیرہ فتح ہوا تو وہاں کے لوگوں سے
دس درہم فی کس جزیہ وصول کیا گیا۔ جو لوگ اپاچی اور بیکار ہو جاتے تھے ان کا جزیہ
معاف کر دیا جاتا تھا اور ان کو حکومت کی طرف سے وظیفہ ملتا تھا۔ (ایضاً ص ۳۹۲)

**فے اس مال کو کہتے تھے جو فرقی مغارب سے جنگ وجدال کے
فے اور غنیمت** بغیر حاصل ہوتا تھا اور جنگ میں فتح کی صورت میں جو مال و
اموال حاصل ہوتا تھا وہ غنیمت کہلاتا تھا۔ اس کے پانچ حصے کیے جاتے تھے۔ چار حصے

جنگ میں شریک مجاہدین میں تقسیم کردیئے جاتے تھے اور پانچواں حصہ (خس) بارگاہ خلافت میں بھیجا جاتا تھا۔

ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ عہد صدیقی میں بنو سلیم کے معاون پر ٹیکس علاقے میں واقع ایک معدن (کان) فتح ہوئی تو اس کی آمدنی بیت المال میں داخل کی گئی، اس طرح بعض اور معدنوں (کانوں) سے بھی کثیر مال آتا تھا۔ گویا کافی بھی حکومت کی آمدنی کا ایک ذریعہ تھیں۔ عہد صدیقی میں کانوں کی پوری آمدنی بیت المال میں داخل کی جاتی تھی یا اس کا کچھ حصہ؟ اس کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ (ایضاً ص ۲۹۵)

**عہد صدیقی میں آمدنی کے بڑے بڑے مصارف یہ تھے،
مصارف**
۱۔ عمال صدقات و زکوٰۃ کاروزینہ (یہ انہی کے جمع کیے ہوئے مال سے دیا جاتا تھا۔)

۲۔ خلیفہ اور دوسرے کارپردازان حکومت کاروزینہ۔

۳۔ فوج کے لیے ہتھیار اور سامان رسید وغیرہ کی فراہمی۔

۴۔ رفاه عامہ کے کام،

۵۔ مختلف سماجی معاشرتی اور دینی امور مثلاً اپاہجوں، کمزوروں، بوڑھوں، مسکینوں کی مدد۔ اپاہج اور بیکارذمیوں کے وظائف۔

۶۔ رسول اکرم ﷺ کے وعدوں کی تکمیل،

ضروری مصارف کے بعد جو رقم بچتی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو سب لوگوں میں برابر تقسیم کر دیتے تھے۔ ان میں چھوٹے بڑے آزاد، غلام، مرد اور عورت سب شامل تھے۔ چنانچہ پہلے سال مال آیا تو ہر شخص کے حصے میں سو سات درهم (برداشت دیگر دس درهم) آئے۔ دوسرے سال اس سے زیادہ مال آیا اور حسب سابق سب برابر تقسیم کیا

گیا تو ہر شخص کو بیس بیس درہم ملے، بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے تمام لوگوں کو برابر کر دیا حالانکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے فضائل کی بدولت ترجیح دیئے جانے کے متعلق ہیں حضرت ابو بکر صدیق رض نے فرمایا۔۔۔ ”فضائل کا ثواب خدادے گا۔ یہ معاش کا معاملہ ہے اس میں مساوات ہی بہتر ہے“

مال غنیمت کے خس کی تقسیم کا طریقہ الگ تھا۔ اس کا ایک حصہ جسے قرآن کریم میں اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، فوجی مصارف کے لیے رکھ لیا جاتا تھا۔ دوسرا حصہ خاندان نبوت کے لیے مخصوص کر دیا جاتا تھا اور باقی حصے قبیلوں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کیے جاتے تھے۔

اپنے عہد خلافت کے اوآخر میں حضرت ابو بکر صدیق رض نے ایک بیت المال تعمیر کرایا لیکن اس میں کبھی کسی بڑی رقم کے جمع کرنے کی نوبت نہ آئی، اس لیے اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ تھا۔ ایک دفعہ کسی شخص نے کہا کہ آپ کوئی محافظ کیوں نہیں مقرر کرتے تو فرمایا، اس کی حفاظت کے لیے ایک قفل کافی ہے۔

صدیق اکبر رض کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رض نے چند اکابر صحابہ کرام رض کو ساتھ لے کر بیت المال کا جائزہ لیا تو صرف ایک دینار (برداشت دیگر ایک درہم) برآمد ہوا۔ ان اصحاب کی زبان سے بے اختیار نظرًا ”اللہ، ابو بکر صدیق رض پر رحمت نازل کرے۔“ پھر انہوں نے بیت المال کے خزانچی کو بلا کر پوچھا کہ حضرت ابو بکر رض کی وفات تک بیت المال میں کل کس قدر مال آیا ہو گا۔ اس نے کہا ”دولا کھ دینار“ لیکن جو مال آتا حضرت ابو بکر اس کو ضروری مددوں پر فوراً خرچ کر دیتے تھے یا لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ (ایضاً ص ۲۹۶)

عسکری نظام گرب میں مستقل فوج کا کوئی تصور نہ تھا اور نہ لوگوں کو فوجی تربیت دینے کے لیے وہاں کوئی فوجی مدرسہ یا ادارہ تھا، لیکن عرب فاطری

طور پر ایک جنگجو قوم تھے۔ وہ ہر دور میں شہسواری، شمشیر زنی، تیر اندازی، نیزہ بازی اور سخت گھائشوں میں اپنے اپنے قبیلوں کے بڑے بوڑھوں سے فوجی تربیت حاصل کرتے تھے یہاں تک کہ قبیلے کا ہر فرد سپاہی بن جاتا تھا۔ ان کی مخاطب فطرت ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی اور وہ اپنی جنگی صلاحیتوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑا کر ضائع کرتے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میتوں ہوئے اور عرب دین حق کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے تو اسلام نے انہیں ایک نیا تخلیل عطا کیا، لظم و ضبط اور راہ حق میں سرفروشی کا ایک نیا احساس۔ جب ضرورت چیز آتی اور جہاد کا اعلان ہوتا تو صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم رضا کا رانہ طور پر بڑے ذوق و شوق سے پرچم جہاد کے نیچے جمع ہو جاتے اور باطل کے خلاف اپنی جانوں کی بازی لگادیتے۔ اس طرح خود بخود ہی ایک رضا کار فوج تیار ہو گئی۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصحاب کی اخلاقی تربیت فرمائی اور ان کو لظم و ضبط کے ساتھ لڑنا سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع اور محل کے مطابق چھاپے ماریا اگر زی پا طریقہ جنگ سے بھی کام لیا اور مجاہدین کو صاف بند کر کے بھی (صف بند) دشمن کے خلاف جنگ کی۔ حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی یہی صورت حال باقی رہی لیکن انہوں نے مستقل طور پر اس طرز عمل کو اپنایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اختیار فرمایا تھا یعنی اسلامی لشکر کو بہت سے دستوں میں تقسیم کر دیا تھا اور ہر دستے کو الگ الگ پرچم عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ جب وہ مجاہدین کا کوئی لشکر کسی مہم پر روانہ فرماتے تو اس کو مختلف دستوں پر تقسیم کر کے الگ الگ اقرار مقرر فرمادیتے۔ شام پر لشکر کشی کے وقت اسی طریقہ پر عمل کیا گیا۔ امیر الامرایا کماںڈرا نجیف کے عہدے کی بنیاد بھی حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ وہ یوں کہ انہوں نے شام جانے والے لشکروں کے امراء کو ہدایت کی کہ جب وہ سب کسی جگہ بیکجا ہو جائیں تو ان کے سپہ سالار اعلیٰ (کماںڈرا نجیف) حضرت ابو عبیدہ بن الجراح صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید صلی اللہ علیہ وسلم کو عراق سے شام جانے کا حکم دیا تو

انہیں شام کی تمام افواج کا سپہ سالار اعلیٰ (امیر الامرایا کمانڈر انچیف) مقرر کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے کثیر التعداد دشمن کے مقابلے میں اپنے قلیل التعداد لشکر کو بہت سے دستوں میں تقسیم کر دیا اور میدان جنگ میں ہر دستہ کی جگہ اور اس کا کام متعین کر دیا۔ اس طرح کسی ترتیب و نظام کے بغیر لڑنے سے جو قیاحس پیدا ہوتی تھیں ان کا تدارک ہو گیا۔ (خلفیۃ الرسول ص ۲۹۸)

فوج کی اخلاقی تربیت رسول اکرم ﷺ نے جہاد میں شریک ہونے والے مسلمانوں کے لیے چند اخلاقی ضابطے اور اصول مقرر فرمادیئے تھے اور ان پر سختی سے عمل کرنے کا حکم دیا تھا مثلاً عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، راہبوں اور مذہبی پیشواؤں سے کوئی تعرض نہ کرنا۔ کلیساوں (گرجوں) کو نہ چھیڑنا، لاشوں کا مثالہ نہ کرنا، اسی ران جنگ سے اچھا سلوک کرنا وغیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے بھی فوج کی اخلاقی تربیت پر خاص توجہ دی۔ اس کا نمونہ وہ ہدایات ہیں جو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید ﷺ کو یا حضرت یزید بن الیسفیان ﷺ کو شام بھیجتے وقت دیں۔ قریب قریب ایسی ہدایات انہوں نے دوسرے امراء میں فوج کو بھی دیں۔ زبانی ہدایات کے علاوہ وہ امراء میں فوج کو تحریری ہدایات بھی بھیجتے رہتے تھے جن میں ان کو اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی تاکید ہوتی تھی۔ (خلفیۃ الرسول ص ۳۹۹)

اسلحہ جنگ فوج میں سوار اور پیادہ دونوں قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ ان کے پاس باعوم یہ تھیا رہتے تھے۔ تکوار، برائیزہ، چھوٹا نیزہ، تیر کمان۔

دشمن کے قلعوں پر حملہ کرتے وقت ضرورت ہوتی تو منجیقوں، دباؤوں اور ضمبوروں کا استعمال بھی کیا جاتا تھا۔ منجیقوں کے ذریعے قلعوں کی دیواروں پر پھر پھینکنے جاتے تھے۔ دباؤوں اور ضمبوروں کے اندر مجاهدین کی ایک تعداد بیٹھ جاتی تھی اور ان کو دھکیل کر قلعے کی دیوار کے نیچے پہنچ جاتے تھے۔ دباؤوں اور ضمبوروں میں مجاهدین اس

طرح محفوظ ہوتے تھے کہ دشمن کے تیروں سے ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا تھا۔

ارباب سیر و تاریخ نے یہ تصریح نہیں کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رض فوجی لباس کے عہد میں مجاہدین کا لباس کیسا ہوتا تھا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ان کا کوئی مخصوص لباس (جسے وردی یا یونیفارم کہا جاتا ہے) نہیں تھا اور وہ اپنا عام قومی لباس پہن کر ہی رہتے تھے۔ مصر کے دو مصنفین ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن اور پروفیسر علی ابراہیم حسن نے اپنی مشترک تصنیف ”النظم الاسلامیہ“ میں لکھا ہے:

”(عربوں کی) پیادہ فوج گھنٹوں تک قبائیں اور پانچاہے اور جو تے پہنے ہوتی تھی۔ سوار زرہ اور خود پہنے ہوتے تھے۔ یہ خود فولاد کا ہوتا تھا اور اس میں گدھوں کے پر منڈھے ہوتے تھے۔“

فضل مصنفین نے یہ وضاحت نہیں کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رض کے عہد میں فوجیوں نے اس لباس کو اختیار کر لیا تھا یا اس کا رواج بعد میں ہوا۔ زرہ اور خود کا سراج البتہ عہد رسالت میں بھی ملتا ہے۔ اور عہد صدیقی میں بھی۔ (ایضاً ص ۵۰۰)

سامان جنگ میں ہتھیار، خوراک (رسد) خیس، سامان جنگ کی فراہمی سواریاں (اوٹ، گھوڑے، خچر، گدھے) وغیرہ بھی چیزیں شامل ہیں۔ مجاہدین بالعموم اپنا اپنا اسلحہ لے کر آتے تھے۔ جو خود انتظام نہیں کر سکتے تھے ان کا انتظام حکومت کرتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رض سامان جنگ کی فراہمی پر خاص توجہ دیتے تھے اور مختلف ذرائع سے جو آمدی ہوتی تھی اس کا ایک معقول حصہ اسلحہ اور سامان بار برداری وغیرہ پر صرف فرماتے تھے۔ مال غنیمت کا جو حصہ قرآن حکیم میں اللہ اور رسول کا قرار دیا گیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رض نے اس کو کلیہ فوجی مصارف کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔

جنگی گھوڑوں اور اوٹوں وغیرہ کی پرورش کا بھی حضرت ابو بکر صدیق رض نے

خاص انتظام کیا تھا اور ان کے لیے کچھ چڑا گا ہیں مخصوص کر دی جیسیں۔ (ایضاً ۵۰۱)

نو جی مرکز کا معاشرہ میں حصہ لینے کی خاطر مدینہ منورہ پہنچتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رض ان کو بالعوم خود ضروری ہدایت دے کر مدینہ منورہ سے رخصت کیا کرتے تھے۔ ان مجاہدوں کے پڑاؤ کے لیے جرف اور ذوالقصہ کے وسیع میدان مخصوص کر دیئے گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رض وقتاً فوتاً ان فوجی مرکز کے معائنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ انتظامات یا مجاہدین کی مادی اور روحانی حالت میں کوئی خامی نظر آتی تو اس کی اصلاح فرماتے تھے۔

ایک دفعہ فوجوں کے معائنے کے لیے جرف تشریف لے گئے اور گھوم پھر کر مختلف امور کا جائزہ لینے لگے۔ یہ فزارہ کے پڑاؤ میں پہنچنے والوں نے پرتپاک خیر مقدم کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رض نے بھی ان کو ملائاد سہلاد مر جا کہا۔ ان لوگوں نے عرض کیا: ”یا خلیفہ رسول اللہ، ہم لوگ گھوڑوں کی سواری میں خوب مہارت رکھتے ہیں، اس لیے گھوڑے ساتھ لائے ہیں آپ لشکر کا بڑا پرچم، میں عنایت فرمائیے۔“ حضرت ابو بکر صدیق رض نے انہیں دعائے خیر و برکت دے کر فرمایا: ”بڑا جھنڈا تم کو نہیں مل سکتا کیونکہ وہ بنو عبس کو دیا جا چکا ہے، ایک فزاری نے کھڑے ہو کر کہا، ہم لوگ عبس سے اچھے ہیں۔“

حضرت ابو بکر صدیق رض نے خفا ہو کر فرمایا:

”چپ بیوقوف تجھ سے ہر ایک عبسی اچھا ہے۔“

ایک عبسی نے بھی اٹھ کر کچھ کہنا چاہا لیکن حضرت ابو بکر صدیق رض نے اسے بھی ڈانٹ کر خاموش کر دیا اور فرمایا: ”میں جو کچھ کہہ چکا ہوں وہ تمہاری طرف سے کافی ہے۔“ غرض اسی طرح فوجی مرکز میں جا کر مجاہدین کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ ان کو مفید نصیحتیں کرتے تھے اور باہمی اخوت اور محبت کا سبق دیتے تھے۔

(ایضاً ۵۰۲ بحوالہ طبقات ابن سحد رحمۃ اللہ علیہ)

باب نمبر 9

مطاعن باطله

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حضرت سیدنا صدیق اکبر ﷺ کا کردار اور گفتار آئینے سے بھی زیادہ شفاف ہے، لیکن جن کے مقدار میں اذلی محرومیوں کے سوا کچھ نہیں، وہ ہر وقت ان کی کردار کشی میں سرگرم رہتے ہیں۔ ان کی طرف سے جن اعتراضات اور ازامات کا اظہار کیا جاتا ہے وہ سب کے سب ان کی کم علمی، بد نیتی اور عناد قلبی کی بدولت ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر ﷺ کو ان تمام اعتراضات اور ازامات سے محفوظ اور مامون فرمایا ہے، آئیے ذیل میں ایک ایک طعن اور اعتراض کا تجزیہ حقائق کی روشنی میں ملاحظہ کیجئے، اللہ تعالیٰ ہی سید ہے راستے کی طرف ہدایت فرمانے والا ہے۔

حضرت صدیق اکبر ﷺ پر ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ غزوہ احمد سے فرار ان میں بہادری اور جفا کشی کی قلت تھی، اسی لئے وہ دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ غزوہ احمد اور غزوہ حنین کے معروکوں میں فرار ہو گئے تھے لہذا جس میں بہادری اور جفا کشی کی قلت ہو وہ مند خلافت پر بیٹھنے کے قابل نہیں، اللہ اکبر، یہ ایک ایسا اعتراض ہے جس کی کوئی اصل نہیں، اس کے برعکس حضرت صدیق اکبر ﷺ کی

بہادری اور جوانبردی کا اعتراف حضرت مولائے کائنات ﷺ نے بھی فرمایا ہے، جیسا کہ امام بزار نے اپنی مند میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ تمام لوگوں سے زیادہ بہادر تھے، (تاریخ الخلفاء ص ۲۹) حضرت امام ابن سعد فرماتے ہیں:

”احمد کے دن جب لوگ منتشر ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق ﷺ حضور

اقدس ﷺ کے ساتھ تھے، (طبقات الکبریٰ ص ۱۲۳: ۲)

اسی طرح حضرت امام بغوی نے تفسیر معالم المتریل میں اور حضرت امام خازن نے تفسیر خازن میں نقل کیا ہے کہ اکثر مسلمان غزوہ احمد کے موقع پر منتشر ہو گئے مگر تیرہ یا چودہ صحابہ کرام حضور اقدس ﷺ کے ساتھ رہے، ان میں سات مہاجر تھے اور سات انصاری تھے، مہاجر صحابہ کرام کے اسمائیہ ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم، (تفسیر خازن ص ۳۴۶: ۱) حضرت امام بن حجر علیہ الرحمۃ نے بھی یہی لکھا ہے، (فتح الباری شرح بخاری ص ۲۹: ۷) یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احمد میں منتشر ہونے والے مسلمانوں کو معاف فرمادیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک نے فرمایا،

﴿وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾

یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمائی، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا اور تحمل کرنے والا ہے، (آل عمران ص ۱۵۵)

حضرت صدیق اکبر ﷺ نے راہ فرار اختیار نہیں کی بلکہ نہایت پامردی اور ثابت قدی کا مظاہرہ فرمایا، دوسرے صحابہ کرام کے لئے قرآن پاک نے معافی کا اعلان کر دیا تو اب کسی صحابی پر بھی طعن و اعتراض کرنے کی کوئی محنجائش باقی نہیں رہتی، حدیث مبارک ہے، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو، غزوہ حنین میں بھی اہل ایمان کا بہت بڑا امتحان تھا، کفار کے اچانک حملے سے مسلمان منتشر ہو گئے تو حضرت ابو بکر

صدقیق، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہم نے اس اضطرابی ماحول میں بھی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نہایت ثابت قدمی اور جان شاری کا مظاہرہ کیا، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مردی ہے، (زرقانی علی المواہب ۱۹:۳) غزوہ حنین کی صورت حال ہی کچھ اس طرح تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول معظم ﷺ نے کسی صحابی پر بھی عتاب نہ فرمایا، کیونکہ اس وقت پریشانی کے بعد وہ سب بسکجان ہو کر کفار کے ساتھ برسر پیکار ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح و سکینت سے سرفراز فرمایا تھا، قرآن پاک میں ہے،

﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جِنُودَ أَلْمَ
تِرِوْهَا وَعَذَابَ الظِّيَّنِ كَفَرُوا...﴾ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور
مومنوں پر اپنی رحمت نازل فرمائی اور نظر نہ آنے والے لشکر نازل فرمائے اور
کافروں کو عذاب سے دوچار کیا، (سورۃ التوبہ)

ان حقائق سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اور بالخصوص حضرت سیدنا صدقیق اکبر رضی اللہ عنہ کے الزام اور اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں، یہ صرف عناد قلبی کا شاخانہ ہے،
پھر ارجنگ کے ازام اور اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔

حضرت صدقیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے
اما رت حج سے معزولی کہ حضور اقدس ﷺ نے ان کو امارت حج کے منصب سے معزول کر کے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو فائز کر دیا تھا، اگر آپ امارت و خلافت کے قابل ہوتے تو آپ کو معزول کیوں کیا جاتا، اس اعتراض کی بھی کوئی اصل نہیں، اگر یہ اعتراض درست مانا جائے تو پھر معاذ اللہ شان رسول پر بھی اعتراض وارد ہوتا ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے آپ کو معزول کرنا تھا تو اس منصب پر فائز کیوں کیا تھا، حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آپ کو ہرگز معزول نہیں کیا تھا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو تو صرف سورۃ التوبہ کے احکام

پڑھ کر نانے کے لئے بھیجا تھا، باقی انہوں نے حج کا فریضہ حضرت صدیق اکبر ﷺ کی امارت اور قیادت میں سرانجام دیا کہ آپ نے حضرت علی المرتضی ﷺ سے پوچھا ہے (انت امیر او مامور) آپ امیر حج بن کر آئے ہیں یا مامور ہیں، انہوں نے عرض کیا، میں مامور ہوں گویا امیر حج آپ ہی ہیں، پھر حضرت ابو بکر نے حج کی قیادت فرمائی، (البدایہ و النہایہ ۵: ۲۷)

سورۃ التوبہ کے اعلان کے لئے حضرت علی المرتضی ﷺ کے تقریبی وجہ یہ تھی کہ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کسی معاهدہ کو کا عدم قرار دینا مقصود ہوتا تو اس کا اعلان معاهدہ کرنے والا خود کرتا یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار کرنا، چونکہ سورۃ التوبہ کا اعلان عرب کے غیر مسلم باشندوں کے رو برو کرنا تھا اس لئے ان کے مروجہ طریقے کو سامنے رکھا گیا اور اس مقصد کے لئے حضرت علی المرتضی ﷺ کو بھیجا گیا کہ وہ کفار عرب کے سامنے سابقہ تمام معاهدہ کو کا عدم کر دیں، اس میں حضرت صدیق اکبر ﷺ کی معزولی کا شائبہ تک نہیں، یہ عقل عیار کا وہم ہے،

حضرت صدیق اکبر ﷺ پر ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے

جنازہ میں عدم شرکت کہ وصال مصطفیٰ پر ان کو اپنی خلافت کی پڑی تھی، انہوں نے حضور اقدس ﷺ کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کی، استغفر اللہ، اس اعتراض کی بھی کوئی اصل نہیں، اول تو یہ کہ حضور اقدس ﷺ کی نماز جنازہ ہمارے اس مروجہ طریقے کے مطابق نہیں ہوئی تھی، ملا باقر مجتبی نے لکھا ہے کہ حضرت امام باقر فرماتے ہیں، "حضور اقدس ﷺ کے جنازے کی یہ صورت تھی کہ دس دس افراد نماز جنازہ کے لئے حجرہ مبارک میں داخل ہوتے تھے تاکہ بغیر امام کے نماز ادا کریں، سو موادر کے روز سے منگل کی شام تک یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ چھوٹے بڑے مرد عورت مدینہ اور اطراف مدینہ کے تمام لوگوں نے نماز

جنازہ ادا کر لی، (حیات القلوب: ۸۲۲: ۲)

حضرت امام باقر رض کا فرمان ہے، جب رسول اللہ ﷺ کا انتقال ہوا تو ملائکہ، مہاجرین اور انصار نے فوج درفوج آپ پر نماز پڑھی، (اصول کافی: ۲۸۶) سلیم بن قیس ہلالی کا بیان ہے کہ ﴿لَمْ يَقِنْ أَحَدٌ شَهَدَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِلَّا صَلَى عَلَيْهِ﴾ مہاجرین اور انصار کا کوئی فرد بھی ایسا نہیں تھا جس نے حضور اقدس ﷺ کی نماز جنازہ نہ پڑھی ہو، (کتاب سلیم بن قیس ہلالی: ۷۰) متعدد روایات میں حضرت صدیق اکبر رض اور حضرت فاروق اعظم رض کے جنازہ نبوی میں شامل ہونے کا صراحتاً ذکر موجود ہے، مثلاً "جب حضور اقدس ﷺ کو کفن پہننا کر چار پائی پر لٹادیا گیا تو حضرت ابو بکر رض اور حضرت عمر رض جمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، ﴿السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ﴾ اور ان کے ساتھ مہاجرین کی اتنی جماعت تھی جتنی کہ جمرے میں آسکتی تھی، انہوں نے بھی سلام عرض کیا جس طرح حضرت ابو بکر رض اور حضرت عمر رض نے عرض کیا تھا، یہ حضرات صفویں میں کھڑے ہو گئے۔ ان کا کوئی امام نہیں تھا، حضرات شیخین جو صفح اول میں کھڑے تھے، انہوں نے کہا، اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ پر جو کچھ نازل ہوا انہوں نے پہنچا دیا، اپنی امت کو فیصلہ فرمائی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہاں تک کہ اللہ نے دین کو عزت عطا فرمادی، سب لوگوں نے کہا، آمین آمین، پھر وہ باہر نکلے تو دوسرے لوگ اندر داخل ہو گئے، جبکہ تمام مردوں، عورتوں، پھر تمام بچوں نے یہ نماز جنازہ پڑھی، وہ سب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کی قبر انور کے بارے میں گفتگو کرنے لگے، (طبقات اکبری: ۲۹: ۲، انساب الاشراف: ۱: ۵۷۳، البدایہ والحدایہ: ۵: ۲۲۵، سیرت طلبیہ: ۳۹۳: ۳)

آپ ﷺ کی قبر انور کیا ہوئی چاہئے، یہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رض نے ایک حدیث مبارک کی روشنی میں بتایا کہ جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے وہاں ہی اس کا

مزار بنتا ہے، (موطا امام مالک: ۲۱۲، سن ابن ماجہ: ۱۱۸، ترمذی: ۱۲۱، مندا ابو یعلیٰ: ۵۳، مک浩ۃ: ۵۲، مصنف ابن ابی شیبہ: ۵۵۳) حضرت امام اس فرائی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وصال مصطفیٰ ﷺ کے فوراً بعد صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی برکات سے حل ہو گئے، اولاً آپ نے حضور اقدس ﷺ کے وصال کی تصدیق کی، ثانیاً اختلاف تدبیغ کیا اور ثالثاً خلافت کا مسئلہ حل فرمایا، (التعیر فی الدین: ۲۵) کائنات پر سب سے مشکل گھری اس وقت رونما ہوئی جب جان کائنات نے پرده فرمایا، اس نازک ترین موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عزیمت اور استقامت کو سلام پیش کرنا چاہئے جس کی برکت سے جملہ مسائل ختم ہو گئے اور اہل اسلام کو سکون کی دولت نصیب ہوئی، حقیقت یہ ہے کہ آپ نے نماز جنازہ میں بھی شرکت فرمائی، سقیفہ بنی ساعدہ کے مقام پر پیغام کرانصار کی بھی رہنمائی فرمائی اور تدبیغ مصطفیٰ کا مسئلہ بھی حل فرمایا، صحابہ کرام اور اہل بیت عظام نے ہر مرحلے پر آپ کی رائے کو مقدم رکھا اور اسے حکم سمجھ کر تسلیم کیا کیونکہ وصال مصطفیٰ کے بعد آپ ہی کی ذات مرجع خلائق تھی،

حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر قبضہ کے آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مغل خلافت مصطفیٰ پر قبضہ کر لیا تھا، اس منصب کے سب سے زیادہ حقدار علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے، اللہ غنی اس اعتراض کی بھی کوئی اصل نہیں، حقیقت یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کبھی اس منصب کی خواہیں نہیں فرمائی، اگر آپ کے اسلام کا مقصد خلافت کا حصول ہوتا تو آپ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آنے والے مال غنیمت سے محلات تعمیر کرتے اور اپنی اولاد کو عیش و عشرت کی زندگی عطا کرتے، ایسا کہیں نے بھی ثابت نہیں ہو سکتا، آپ نے بارہ خلافت کا بوجھا تارنے کی کوشش کی لیکن صحابہ کرام نے اپنے اجماع سے ان کو برقرار رکھا،

حضرت علی الرضا رض بھی ان میں شامل تھے، حضرت علامہ شریف المرتضی علی الرحمہ نے رقم فرمایا ہے،

”جمع مسلمانوں ابو بکر پیغمبر کے دست بیعت کردند و اظہار رضا و خوشنودی با و سکون و اطمینان بسوئے او نمودند و گفتند کہ مخالف او بذعنعت کنندہ و خارج از اسلام است، تمام اہل اسلام نے رضا و خوشنودی اور سکون و اطمینان کے ساتھ حضرت ابو بکر رض کے دست حق پر بیعت کی اور کہا کہ ان کا مخالف بدعتی ہے اور اسلام سے خارج ہے، (بہار الانوار جلد ۳)

ایک دفعہ ایک شخص سے راقم الحروف کی بات ہوئی۔ اس نے کہا کہ اجماع صحابہ کا کیا اعتبار ہے، صحابہ نے تو حضرت بلال رض کو ”عہدہ موزن“ سے ہٹانے کے لئے بھی پورا ذور لگایا تھا، ان کے اصرار پر ان کو ہٹا دیا گیا تو رات اتنی طویل ہو گئی کہ لوگ انہوں اٹھ کر مسجد نبوی میں آتے رہے، لیکن صبح کے آغاز نظر نہ آئے، بالآخر رسول نے فرمایا کہ جب تک بلال اذان نہ پڑھے گا صبح طلوع نہ ہوگی، راقم الحروف نے عرض کیا، تم اسی روایت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو، جس رسول کا موزن تبدیل کر دیا جائے تو صبح طلوع نہیں ہوتی، خلیفہ تبدیل کر دیا گیا۔ تو قیامت کیوں نہ برپا ہو گئی؟ موزن کا تبدیل کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف تھا، اس لئے رات طویل ہو گئی اور لوگوں کو حضرت بلال رض کی شان و عظمت کا علم ہو گیا، جبکہ خلافت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق تھا، اس لئے رات بھی ڈھل گئی، صبح کا سورا بھی طلوع ہو گیا اور گردش لیل و نہار کے سلسلے اسی طرح رونما ہوتے رہے، پھر حضرت بلال رض کو معزول کرنے کے لئے تمام صحابہ کرام نے کب عرض کیا تھا، اگر یہ روایت عقلاءً اور نقلائی صحیح ہے تو چند افراد کے کہنے سے یہ کام ہوا تھا، حضرت صدیق اکبر رض کو چند افراد نے نہیں، سوالاً کہ سے زیادہ صحابہ کرام نے

قرآن و حدیث کے صریح اشاروں کو مد نظر رکھتے ہوئے منتخب فرمایا تھا، ملا باقر مجلسی نے تذكرة الائمه میں صحابہ کرام کی تعداد چار لاکھ رقم کی ہے، تو گویا چار لاکھ کے لگ بھگ صحابہ کرام اور بے شمار تابعین عظام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنے اعتماد کا اظہار کیا تھا، پھر اہل بیت اطہار بھی مکمل طور پر ساتھ تھے، کیا اہل بیت اطہار نے ایک غاصب اور قابض انسان کی بیعت کی تھی، اور اس کے پیچھے نمازیں پڑھی تھیں؟ حضرت علی المرتضی رض نے دو مرتبہ بیعت کی تھی، پہلی مرتبہ جب عام مسلمانوں نے بیعت کی اور دوسری مرتبہ جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا، اس وقت بیعت کی تاکہ پہلی بیعت لوگوں کی نظر میں مزید مضبوط ہو جائے، ان چھ مہینوں میں آپ حضرت ابو بکر صدیق رض سے الگ نہیں رہے بلکہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، اور صلاح و مشورہ کی خاطران کے پاس آتے رہے، ذی القصہ کے موقع پر بھی ان کے ہر کاب تھے، (البدایہ والنہایہ: ۵: ۲۸۶)

حضرت امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رض سے مردی ہے کہ حضرت علی المرتضی رض نے دوسری بیعت پہلی بیعت کو مزید پختہ کرنے لئے فرمائی اس کو ابن حبان وغیرہ نے صحیح کہا ہے، (فتح الباری: ۳۹۹) پھر اس بیعت کا ذکر معتبرین کی کتابوں میں بھی بکثرت وارد ہے، حضرت علی المرتضی رض کا یہ اہتمام فرمانالوگوں کے شبہات کو زائل کرنے کے لئے تھا تاکہ قیامت تک معلوم ہو جائے کہ حضرت صدیق اکبر رض، غاصب خلافت نہیں، ان کی مرضی اور خوشنودی کے ساتھ اس منصب پر فائز ہیں، حضرت علی المرتضی رض اور حضرت زبیر رض کا فرمان ہے،

﴿مَا أَغْضَبَنَا إِلَّا إِنَّا نَرَى عَنِ الْمُشْوِرَةِ وَإِنَّا نَرَى إِنَّا بَكْرًا حَقُّ النَّاسِ

بِهَا إِنَّهُ لِصَاحِبِ الْغَارِ وَإِنَّا لَنَعْرِفُ شَرْفَهُ وَخَيْرَهُ وَلَقَدْ أَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ

مَنَّا لِلَّهِ أَنْ يَصْلِي بِالنَّاسِ وَهُوَ حَمِيمٌ هُمْ تَوَسَّلُ لَهُ نَارًا فِي أَرضٍ ہوئے کہ

ہمیں مشورے سے موخر کیا گیا تھا ورنہ ہم جانتے ہیں کہ بے شک ابو بکر صدیق ہی تمام انسانوں سے زیادہ حقدار خلافت ہیں، کیونکہ وہ صاحب غار ہیں، اور ہم ان کے خیر و شرف کو پہچانتے ہیں، بے شک رسول اللہ ﷺ نے اپنی حیات ظاہری میں ان کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، (البدایہ

والنها یہ ۵: ۲۵۰، السنن الکبریٰ ۸: ۱۵۳، الاعتقاد: ۱۷۹)

اس نازک ترین وقت کے مطابق حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت ابو عبیدہ، حضرت زید بن ثابت اور دیگر صحابہ کرام کا فوری فیصلہ بالکل درست ثابت ہوا اور قوم ایک بہت بڑے فتنے سے محفوظ ہو گئی، اس صورت حال کا تجزیہ جب حضرت علی الرضا رض اور حضرت زیر رض نے کیا تو وہ بھی صحابہ کرام کے فوری فیصلے کو حق بجانب سمجھنے لگے، جہاں تک حضرت صدیق اکبر رض کے حقدار خلافت ہونے کا سوال ہے تو اس بارے میں کسی ایک فرد کو بھی اعتراض نہیں تھا، سب صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار شروع ہی سے آپ کو "حق الناس" تصور کرتے تھے، قرآن و حدیث نے بھی اپنے واضح اشارات میں آپ کی طرف لوگوں کو مائل کیا تھا لہذا خلافت مصطفوی پر بعضہ جمانے کا الزام اور اعتراض سراسر باطل ہے،

شعبِ ابی طالب سے لائق حضرت سیدنا صدیق اکبر رض پر ایک یہ کہ انتہائی کٹھن مرحلے میں حضور انور رض اور آپ کے خاندان کی اعانت نہیں کی، اس موقع پر صرف حضرت علی الرضا رض آپ کے مونس و غنوار تھے، اس اعتراض کی بھی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، جہاں تک حضرت علی الرضا رض کی غنواری اور جان سپاری کا تعلق ہے تو اس میں کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہو سکتا، لیکن اس موقع پر حضرت صدیق

اکبر رضی اللہ عنہ حضور انور رضی اللہ عنہ کے غم و اندوہ میں شریک تھے، حضرت ابو طالب نے اپنے اشعار میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے، ایک شعر دیکھئے۔

وهم رجعوا سهل بن یضاء رضی اللہ عنہ

فسر ابو بکر بہا و محمد

یعنی جب قریش کی ایک جماعت خاندان نبوت کو شعب الی طالب میں محصور کرنے کے لئے لکھا جانے والا عہد نامہ توڑنے کو اٹھ کھڑی ہوئی تو سہل بن بیضا بھی اس میں شامل تھا، اس کام پر حضرت محمد مصطفیٰ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بہت خوش ہوئے (ازالۃ الاخفاء: ۲۰، سیرت ابن ہشام: ۳۷۹، البدایہ والتحایہ: ۲، ۹۸: ۲، الاستیعاب: ۹۲: ۲) یہ واقعہ مرزا تقی لسان الملک شیعی نے بھی بیان کیا ہے اور حضرت ابو طالب کا مذکورہ شعر رقم کیا ہے، (ذاغ التواریخ: ۱۲۲: ۵) معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور انور رضی اللہ عنہ کے ان مصائب میں بھی بالکل ساتھ ساتھ تھے، اور اپنا تمام قبیلہ چھوڑ کر اپنے محبوب کے مونس و غنوار تھے، پھر خاندان نبوت سے اس خوفناک مرحلے کو ٹالنے کے لئے آپ نے قریش میں اپنا اثر و سو خ استعمال کیا اور آپ کی کامیاب کوششوں سے یہ مصیبت ٹل گئی،

حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ایک یہ اعتراض ہے جیش اسامہ سے احتراز کہ انہوں نے حضور انور رضی اللہ عنہ کی از حد تا کید کے باوجود حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہونے سے احتراز کیا، آپ نے فرمایا تھا، لشکر اسامہ کو نافذ کرو، جو شخص اس لشکر کی شمولیت سے پچھے رہ جائے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، چنانچہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان نے اس لشکر میں شمولیت اختیار نہیں کی اس لئے وہ اس دعید کے سزاوار نہیں ہے، لاحول ولا قوۃ الا باللہ، اس اعتراض

کی بھی کوئی اصل نہیں،

اولاً ﴿لَعْنُ اللَّهِ مِنْ تَحْلِفُ عَنْهَا﴾، کے الفاظ الحاقی ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ یہ جملہ ﴿لَعْنُ اللَّهِ﴾..... یعنی جو شخص اس لشکر کی شمولیت سے پچھپے رہ جائے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں ہرگز موجود نہیں۔ بالفرض اگر صحیح بھی ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت اسامہ کو تنہا چھوڑنا اور حضرت زید کے انتقام کے لئے رومیوں کے خلاف تیار ہونے والی اس مہم سے پہلو تھی کرنا حرام ہے، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رض خدمت امامت کے لئے متعین تھے لہذا وہ ان امور سے مستثنی تھے، حضرت شہرتانی نے المثل والخل میں کہا ہے کہ ان ہذہ الجملۃ موضوعۃ مفتراءۃ، بے شک یہ جملہ من گھڑت اور جھوٹ پرمنی ہے، اپنے آپ کو مدد شین اہل سنت میں شمار کرنے والے بعض فارسی نویسیوں کا اپنی کتب سیرت میں اس کا بیان کرنا اہل سنت پر الزام لگانے کے لئے کافی نہیں کیونکہ اہل سنت کے نزدیک اعتبار حدیث یہ ہے کہ وہ حکم صحبت کے ساتھ مدد شین کرام کی مستند کتابوں میں موجود ہو، بے سند حدیث تو ان کے نزدیک شتر بے مہار ہے، (تحذیث شعبہ عشری: ۵۲۷)

ثانیاً حضرت علی المرتضی رض بھی لشکر اسامہ میں شامل نہیں ہوئے، کیا وہ بھی اس وعید کے سزاوار ہوں گے۔ کیونکہ جس طرح لشکر کو نافذ کرنے کا حکم عام تھا اس طرح اس کے تخلف پر لعنت کا اتحقاق بھی عام ہے، لا حول ولا قوۃ الا بالله،

ثالثاً: حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رض نے تو اس لشکر کی تیاری کے لئے خصوصی طور پر حکم صادر فرمایا اور اپنے محبوب کی آخری خواہش کو انتہائی نازک حالات میں پورا کر دیا۔ لہذا وہ اس وعید کے کیسے سزاوار ہوں گے، حضرت عمر فاروق رض کے لئے انہوں نے حضرت اسامہ رض سے اجازت مانگ لی تھی،

رابعاً: آپ کا بذات خود نہ جانا اس لئے تھا کہ آپ رسول اللہ ﷺ کی خلافت کے منصب پر جلوہ گر ہوئے تھے، جس رسول مکرم ﷺ نے لشکر اسامہ میں شرکت کرنے کا سب لوگوں کو حکم دیا تھا اسی نے کمال محبت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی کی امامت کا فریضہ سر انجام دینے کے لئے منتخب فرمایا تھا، گویا ان کو اپنا قائم مقام بنانے کا واضح اشارہ دیا تھا، حضور انور رضی اللہ عنہ اگر خود اس دنیا میں موجود ہوتے تو اس لشکر کے ہمراہ نہ جاتے تو ان کا قائم مقام کیسے جاسکتا تھا، رہا لشکر کو تیار کرنا تو یہ حضور انور رضی اللہ عنہ کا کام ہوتا، اب یہ کام ان کے خلیفہ کے ذمہ تھا جو انہوں نے نہایت احسن طریقے سے سر انجام دیا، دراصل جب کسی شخص کا منصب تبدیل ہو جاتا ہے تو اس پر نئے منصب کے احکام جاری ہو جاتے ہیں، جیسا کہ بچہ جب بالغ ہو جائے، غلام جب آزاد ہو جائے، رعایا جب حکمران ہو جائے، عام انسان جب قاضی بن جائے، فقیر جب غنی ہو جائے، غنی جب فقیر ہو جائے، جنین جب پیدا ہو جائے، زندہ جب مر جائے، اس کی اور بھی مثالیں ہیں۔ گویا پہلی حالت کے احکام دوسری حالت پرنا فذ نہیں کر سکتے، حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ جب مند خلافت پر فائز ہوئے تو آپ پر خلافت نبویہ کے تقاضے عائد ہو گئے لہذا ان کی ذات اس حکم عام سے خارج ہو گئی پھر یہ تجزیع بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی رضا اور مشاک کے مطابق واقع ہوئی لہذا اعتراض باقی نہ رہا۔

حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ پر ایک یہ اعتراض ہے کوئی مہم سر انجام نہ دی کہ انہوں نے اقامت دین اور شرع مตین کیلئے کوئی مہم نہ سر انجام دی، حضور اقدس ﷺ نے کسی معرکے میں انہیں امارت و قیادت عطا نہ فرمائی، لہذا وہ کیسے خلافت نبویہ کے حقدار ہو سکتے تھے، اس اعتراض اور الزام کی بھی کوئی حقیقت نہیں، یہ تو سراسر بہتان اور نرا جھوٹ ہے، حضور اقدس ﷺ نے بہت سے

معروکوں میں حضرت صدیق اکبر رض کو امیر لشکر بنایا اور آپ فتح سے ہمکنار ہوئے،

☆..... غزوہ احمد کے بعد جب یہ خبر رسید ہوئی کہ ابوسفیان اپنی مراجعت سے نادم ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام نے اس کے مقابلے کے لئے حضرت ابو بکر صدیق رض کو رخصت فرمایا اور آپ نے اس کا مقابلہ کیا،

☆..... چاراً بھری کو غزوہ بنی نصیر میں آپ امیر لشکر بنائے گئے جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام اپنے دولت خانہ میں تشریف فرمائے،

☆..... چھاً بھری میں بنو لحیان کے خلاف سریہ میں حضرت ابو بکر صدیق رض نے لشکر اسلام کی قیادت فرمائی،

☆..... دوستہ الجندل کو فتح کرنے کے لئے جو لشکر اسلام روانہ کیا گیا، اس میں ہبھا جرین کے امیر حضرت ابو بکر صدیق رض اور اعراب کے امیر حضرت خالد بن ولید رض مقرر کیے گئے، (ابدیہ:۷۷)

☆..... علامہ ابن ابی الحدید شیعی لکھتے ہیں، سات بھری شعبان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رض کو ایک سریہ پر امیر بنا کر نجد کی طرف روانہ کیا، یہ لوگ رات کے وقت بنو ہوازن پر حملہ آور ہوئے، حضرت سلمہ رض اس مہم میں شامل تھے، فرماتے ہیں، کافی صحابہ کرام شہید ہوئے خود حضرت ابو بکر بھی زخمی تھے اور چند دن قیام کے بعد مدینہ شریف کو عازم سفر ہوئے، (شرح نجع البلاغہ: ۲۵۰) ایک روایت میں حضرت عمر فاروق رض کی امارت کا بھی ذکر ہے،

☆..... غزوہ تبوک کے لئے جب فرمان رسول ہوا کہ لشکر نظرت مدینہ منورہ سے باہر نہیں الوداع کے مقام پر جمع ہوتا اس وقت لشکر گاہ کا امیر حضرت ابو بکر صدیق رض کو مقرر فرمایا،

☆..... غزوہ خیبر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کو دردشیقة عارض ہوا، اس وقت ایک قلعہ کا محاصرہ جاری تھا، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رض کو اپنا نائب مقرر فرمایا اور قلعہ کی فتح کے لئے

روانہ کیا، اس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شدید جنگ کی، سات ہجری کو بنی کلاب کے خلاف مہم میں بھی آپ نے قیادت فرمائی، بنو فزارہ کے خلاف بھی آپ ہی قائد مقرر ہوئے، ☆..... حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اقدس صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سات غزوہات میں جہاد کیا، ان کے علاوہ نوسرا یا میں شرکت کی، اس دوران بعض موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ امیر اور بعض موقع پر حضرت امامہ بن زید رضی اللہ عنہ امیر مقرر کئے جاتے تھے، (بخاری ۲: ۶۱۲: ۲، مسلم ۱۰: ۲)

ان تاریخی حقائق سے معلوم ہوا کہ حضور پیغمبر خدا صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار غار کو متعدد مقامات پر جہاد کے لئے روانہ فرمایا تھا، اگر بالفرض یہ تسلیم کیا جائے کہ آپ کو کسی مہم کے لئے نہیں بھیجا گیا تو پھر بھی مذکورہ طعن اور اعتراض ہرگز درست نہیں، کیونکہ آپ حضور اقدس صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر اور مشیر تھے، بادشاہوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ وزیروں اور امیروں کو عمل داری اور فوجداری کے لئے نہیں بھیجتے، یہ وجہ خود حضور اقدس صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ مختلف ملکوں کی طرف تعلیم دین کے لئے آدمیوں کو ارسال کروں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو ارسال کیا تھا، لوگوں نے عرض کیا مثلاً ابو بکر و عمر جیسے لوگوں کو، آپ نے فرمایا، ان دونوں کو نہیں کیونکہ وہ دین میں کان اور آنکھ کی مانند ہیں،

☆..... اگر کسی کام کیلئے کسی کو نہ بھیجنے اس کے لائق امامت نہ ہونے کی دلیل ہے تو پھر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما بھی لائق امامت نہیں (معاذ اللہ) کیونکہ حضرت علی الرضا رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو کسی جنگ اور کسی مہم میں روانہ نہیں فرمایا، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ اکثر کاموں میں مأمور کیے جاتے رہے، لوگوں نے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ کے والد بزرگوار حضرت علی الرضا رضی اللہ عنہ، اکثر جنگوں اور خطرناک

مہموں میں آپ ہی کو روانہ کرتے ہیں، حضرات حسین کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرتے، حضرت محمد بن حفیہ نے خوب جواب دیا کہ وہ دونوں حضرت علی الرضاؑ کی دو آنکھوں کی طرح ہیں، جبکہ دوسرے ہاتھ اور پاؤں کی مانند ہیں، انسان سارے کام اپنے ہاتھ اور پاؤں سے سرانجام دیتا ہے، وہ آنکھوں کو کیسے تکلیف دے سکتا ہے، بلکہ انسان کی جلت ہے کہ مصیبت کے وقت اپنا ہاتھ اپنی آنکھ پر رکھ دیتا ہے، (تحفۃ الناشریہ: ۵۷)

مالک بن نویرہ کا قتل حضرت سیدنا صدیق اکبرؑ پر ایک یہ اعتراض ہے کہ مالک بن نویرہ کا قتل ان کے دورخلافت میں ان کے محظوظ پسہ سالار حضرت خالدؓ نے مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا جو مسلمان تھا اور اس کی حسین و جیل بیوی سے نکاح کر لیا حالانکہ اس کی عدت بھی نہیں گزری تھی، حضرت ابو بکر صدیقؓ پر واجب تھا، کہ حضرت خالدؓ کو اتنے بڑے جرم کی قرار واقعی سزا دیتے، لیکن اس کے بر عکس انہوں نے حضرت خالدؓ کو پسہ سالاری کے عهدے پر برقرار رکھا اور ان کے ناز اٹھاتے رہے، اس اعتراض کی بھی کوئی اصل نہیں، شاید اعتراض کرنے والے جانتے نہیں یا جان بوجھ کر مغالطہ آفرینی کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت کی روشنی عطا فرمائے، اصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ طیبہ بن خویلد اسدی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کی سرکوبی کے لئے حضرت خالد بن ولیدؓ پر روانہ ہوئے اور اس کو ٹکست فاش دی، اس مہم سے واپسی پر آپ نے علاقہ بطاح پر توجہ دی جس کا سردار مالک بن نویرہ تھا، اگرچہ اس نے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا مگر وصال رسول کے بعد مرتدین کی صفت میں شامل ہو کر زکوٰۃ کی ادائیگی سے منحرف ہو گیا، مرتدین کے خلاف بھی حضرت خالدؓ ہی کارنا مے سرانجام دے رہے تھے دوسری بات یہ کہ اس علاقے کے گرد و نواحی سے یہ گواہی بھی موصول ہوئی کہ حضور اقدس ﷺ کے وصال کی خبر سننے ہی مالک بن نویرہ کے

اہل خانہ نے خوشی کا اظہار کیا، دف بجائی، مہندی لگائی اور سرت و انبساط کے طریقے اپنائے، یہ کام بھی ان لوگوں کے امرتداد کی دلیل بن گیا، پھر جب مالک بن نوریہ کو حضرت خالد کے حضور پیش کیا گیا تو حضور اقدس ﷺ کے متعلق اس کا انداز بھی گستاخانہ تھا، وہ آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا (قال رجلکم قال صاحبکم) یعنی تمہارے مرد نے اور تمہارے صاحب نے کہا وغیرہ، اس دور میں اس انداز سے بات کرنا کفار کا شیوه تھا، تیسری بات یہ کہ جب مسلمان کسی علاقے پر حملہ کرتے تو حملے سے پہلے غور کرتے کہ کہیں وہاں سے اذان کی آواز نہ آ رہی ہو، اگر اذان کی آواز نہ آتی تو حملہ کر دیتے ورنہ درگزر کرتے، مالک بن نوریہ کے علاقے سے اذان کی آواز بھی سنائی نہ دی، اس پر حضرت ابو قاتدہ انصاری رضی اللہ عنہ کے سواب اہل شکر نے گواہی فراہم کی تو حضرت خالد نے حملہ کر دیا۔ چوتھی بات یہ کہ مالک بن نوریہ نے زکوٰۃ کا جمع شدہ مال اپنی قوم کو واپس کر کے کہا کہ اس شخص (یعنی نبی اکرم ﷺ) کی موت سے تمہاری خلاصی ہو گئی، ان تمام وجہات کو سامنے رکھ کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ جیسا عاشق رسول اس علاقے اور اس کے سردار کو کیے معاف کر سکتا تھا، ان کے نزدیک تو حضور اقدس ﷺ کی شان میں معمولی گستاخی کرنے والا بھی واجب القتل تھا، چنانچہ انہوں نے مالک بن نوریہ کو قتل کر دیا۔ یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ مالک بن نوریہ مرتد نہیں تھا لیکن اس کے منہ سے نکلنے والے کلمات سے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس کا مرتد ہونا تصور کر لیا تھا، گویا اس شے کی وجہ سے بھی قصاص دفع ہو گیا پھر اگر کوئی شخص عاشورا کے دن خوشی منائے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخانہ انداز اختیار کرے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہئے اگر اسے مرتد کہا جائے تو فبہا، اگر ان حرکات اور کلمات کی وجہ سے اسے مرتد گمان کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے تو شیعہ اور سی حضرات کے نزدیک قصاص واجب ہو گایا نہیں؟

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دربار خلافت میں حضرت ابو قادہ انصاری رضی اللہ عنہ کی شکایت پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی جواب طلبی ہوئی، آپ نے سارا ماجرا من و عن بیان کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو حق بجانب صحیح تھے ہوئے امیر الامر اکے منصب پر بحال فرمادیا، بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کمال احتیاط سے کام لیتے ہوئے مالک بن نوریہ کی دیت بیت المال سے ادا فرمائی اور ان کے افراد اور اموال کو واپس کر دیا، (تاریخ خلیفہ بن خیاط ۱: ۲۰۷، سیر اعلام النبلاء ۱: ۲۷۱) اس قسم کے واقعات دور نبوی میں بھی سامنے آتے رہے تھے، مثلاً واقعہ صباتا میں حضرت خالد سے چند افراد سہوا قتل ہو گئے تھے، لیکن خود رسول اللہ ﷺ نے حضرت خالد سے قصاص نہ لیا تھا، حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں،

”باجملہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ را در درا قصاص از خالد رضی اللہ عنہ سوہ حسنہ است بر رسول اللہ در قصہ صباتا و ایں مسئلہ اجتہاد یہ است کہ علماء راں مختلف اند و صدیق به حسب اجتہاد خود کا فرمودو، ہم چنیں است وظیفہ خلیفہ چوں باجتہاد فقہا نے دیگر مخالف شود“ (قرۃ العینین ۲۳۳)

اس طرح کا ایک اور واقعہ دور نبوی میں پیش آیا، وہ یہ کہ رفاعة بن زید جذابی نے حضور اقدس کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، پھر اس نے آپ سے ایک تحریر مانگی جس سے وہ اپنی قوم کو اسلام کی طرف بلائے گا، چنانچہ وہ آپ کا مکتوب گرامی لے کر اپنے قبیلے میں گیا، اس کے جانے سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اس قبیلے کی طرف پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے اجتہاد سے اس قبیلے پر حملہ کر دیا۔ بعض لوگ قتل ہو گئے اور بعض کو گرفتار کر لیا گیا، رفاعة بن زید اپنی قوم کے کچھ افراد کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا جن میں ابو یزید بن عمرو نمایاں تھا، ان افراد نے حضرت زید رضی اللہ عنہ

کے حملے کا ذکر کیا تو حضور اقدس ﷺ نے اظہار افسوس کیا اور فرمایا "مقتولین کا کیا کیا جائے" ابو زید نے کہا ہمارے قیدی رہا کر دیئے جائیں اور مقتولین کا ہم کوئی معاوضہ طلب نہیں کریں گے، آپ نے فرمایا ابو زید نے سچ کہا، چنانچہ آپ نے حضرت علی المرتضی علیہ السلام کو اس قبلیہ کی طرف بھیج کر ان کے قیدی رہا کروائے اور اخذ شدہ اموال واپس دلائے تاکہ ان لوگوں کی تلافی ہو سکے، اس جہاد میں حضرت زید علیہ السلام سے خطا واقع ہوئی تھی لیکن ان سے قصاص نہ لیا گیا۔ اسی طرح اگر بالفرض حضرت خالد کی خطا تسلیم کر لی جائے تو حضرت صدیق اکبر علیہ السلام سے کیسے قصاص لے سکتے تھے، اگر اجہتادی خطا کی وجہ سے حضرت زید پر طعن و اعتراض نہیں آتا تو حضرت خالد اور حضرت صدیق پر کیسے جائز ہو گا، حالت جنگ میں بہت سے امور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سر انجام دینے کے لئے فوج اور اس کا سلاح بجانب ہوتا ہے اگرچہ بعد میں تاریخ اس کے بارے میں کوئی دوسرا فیصلہ نہ ہے، آخر میں ایک یہ اعتراض ہے کہ حضرت خالد علیہ السلام نے مالک بن نوریہ کی حسین و جمیل بیوی سے شادی کی حالانکہ اس کی عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی، پہلی بات تو یہ کہ اس میں حضرت خالد پر تو اعتراض ہو سکتا ہے، حضرت صدیق اکبر علیہ السلام پر نہیں، کیونکہ آپ نے ان کو باقاعدہ سرزنش کی تھی پھر انہوں نے بتایا کہ یہ شادی مالک بن نوریہ کی کسی سابقہ بیوی ام تمیم سے کی تھی جس کو اس نے ایک عرصے سے چھوڑ رکھا تھا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

"ایں روایت کہ خالد ہمارا شب بآن زن صحبت داشت دریج کتاب معتبر نیست و اگر در بعضی کتب غیر معتبرہ یافتہ می شود جواب آن نیز ہمراہ این روایت موجود است کہ این زن راما لک از مدّتی مطلقہ ساختہ و محبوس داشتہ بود بنا بر رسم جاحدیہ و برائے دفعہ حتمیں رسم فاسد ایشان ایں آیت نازل شدہ ہے و اذا طلقتم

النساء فبلغن اجلهن فلا تغضلوهن بھے، پس عدت او منقضی شده بودو
نكاح او حلال گشته، بھمین جهت خالد انتظار عدت دیگر نہ کشد و ھمیں است
مذہب جمع فقهاء اہل سنت، یعنی یہ روایت کہ حضرت خالد نے اسی رات اس
عورت سے قربت اختیار کی، کسی معتبر کتاب میں مروی نہیں، جن بعض غیر
معتبر کتابوں میں موجود ہے تو وہاں اس کا جواب بھی مرقوم ہے کہ وہ عورت
مالک بن نوریہ سے ایک مدت سے طلاق یافتہ تھی اور ایک جامیلی رسم کی وجہ سے
اس کے ہاں مجبوس تھی، اس رسم کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی، اور جب تم
عورتوں کو طلاق دو اور ان کی مدت (عدت) پوری ہو جائے تو انہیں روک نہ
رکھو، (سورۃ البقرہ ۲۳۲، لہذا اس عورت کی عدت پوری ہو چکی تھی اور اس کے
ساتھ نکاح حلال تھا، اس وجہ سے حضرت خالد نے اس کی کسی اور عدت کا
انتظار نہ فرمایا، یہی تمام اہل سنت کے فقہاء کا مذہب ہے۔ (تحفۃ الشاہزادیہ ۵۲۲)

اب مکمل حقیقت نکھر کر سامنے آگئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رض اور حضرت
خالد بن ولید رض پر کوئی اعتراض قائم نہیں ہو سکتا، روایات کو غیر معتبر کتابوں سے حاصل
کرنا اور وہ بھی سیاق و اسباق کو دانستہ چھوڑ کر بیان کرنا مفترضین کی زیادتی ہے، اس
انداز فکر سے فاصلوں کی خلیج گھری تو ہو سکتی ہے، ختم نہیں ہو سکتی،

حضرت حسین کا اعتراض ہے کہ جب وہ منبر رسول پر بیٹھے تو حضرت امام
حسن رض اور حضرت امام حسین رض نے فرمایا، ھبہ ابا بکر انزل عن منبر جدنا لهم اے
ابو بکر ہمارے جدا مجد کے منبر سے اتر جائیے، گویا حضرات حسین کے اس فرمان سے معلوم
ہوا کہ ان میں خلافت کی الہمیت نہیں تھی، اس اعتراض میں بھی کوئی حقیقت نہیں اور نہ یہ

لوگ حضرات حسین کی مراد کو سمجھ سکے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ السلام کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں:

”خلافت ابو بکر رض کے زمانے میں حضرات حسین چھوٹی عمر کے تھے، اس پر سب کا اجماع ہے، کیونکہ حضرت امام حسن کی ولادت ہجرت کے تیرے سال رمضان میں ہوئی اور حضرت امام حسین کی ولادت ہجرت کے چوتھے سال شعبان میں ہوئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کا وصال ہجرت کے گیارہویں سال کی ابتداء میں ہوا، پس اس چھوٹی عمر میں ان سے جوابوں اور افعال صادر ہوئے تو کیا شیعہ حضرات ان پر اعتبار کرتے ہیں اور ان پر احکام مرتب کرتے ہیں یا چھوٹی عمر کے عجب اعتبار نہیں کرتے، اور ان پر احکام کی بنیاد نہیں رکھتے، پہلی صورت میں تقیے کو چھوڑنا لازم آتا ہے جو ان کے جملہ واجبات میں سے ہے نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کی مخالفت لازم آتی ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رض کو چہار شنبہ سے دو شنبہ تک نماز صحیح وقت میں اپنا خلیفہ بنایا تھا، دریں اتنا نماز جمعہ کا خطبہ اور امامت بھی اسی خلافت میں آپ نے سرانجام دی تھی، نیز اس سے حضرت امیر المؤمنین علی الرضا رض کی مخالفت بھی لازم آتی ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت ابو بکر رض کے پیچھے جر نماز ادا کی، اس فعل سے ان کے خطبے و جمعے کو تسلیم کر لیا لازم آتا ہے، دوسری صورت میں کوئی نقصان نہیں اور نہ چھوٹی عمر کی وجہ سے صادر ہونے والا یہ قول طعن و تشنیع کا موجب ہے، بچوں کا قاعدہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کو اپنے بزرگ اور اپنے محبوب کے مقام پر بیٹھے دیکھتے ہیں یا اس کا لباس پہنے ہوئے دیکھتے ہیں یا اس کی دیگر اشیاء استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اگرچہ اس آدمی کو ان کے بزرگ یا محبوب کا اذان اور رضائی کیوں نہ درکار ہو، تو وہ مراجحت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں، ”ازیں مقام برخیز یا جامہ رابرکش، اس مقام سے انہوں جائیے یا لباس اتار دیجئے، ان کے ان اقوال سے استدلال نہیں ہو سکتا، ہر چند کہ انبیاء،

کرام اور انہے عظام کمالات نفسانی اور مراتب ایمانی میں تمام مخلوق سے ممتاز ہوتے ہیں لیکن ان میں بھی بشری احکام اور طفویلیت کے خواص باقی ہوتے ہیں، لمذ اوه حد بلوغ اور کمال عقل کے حصول پر مقتدا بنتے ہیں، بلکہ چالیس سال سے پہلے کسی کونبوت (کے اعلان کا حکم) نہیں ملا (الا نا درأ و النادر فی حکم المعدوم)، سوائے کسی ایک کے، اور چیز نادر معدوم کے حکم میں داخل ہے، پھر یہ مثل بھی مشہور ہے، (الصی صبی و نو کان نبیا)، بچہ تو بچہ ہے اگرچہ نبی کیوں نہ ہو، (تحفہ اشاعت عشریہ: ۵۲۰)

اللہ اکبر، معترضین کو حضرات حسین کا یہ فرمانا تو یاد رہا، حضرت علی المرتضیؑ کا بیعت کرنا، چیچپے نماز پڑھنا، خطبے سننا، ان کو منبر پر بیٹھنے ہوئے دیکھنا اور اعتراض نہ کرنا، ان کی خلافت کے عہدے سنبھالنا، مشورے دینا اور ہر کام میں ساتھ ساتھ رہنا یاد رہا، وہ پاکیزہ لوگ باہم شیر و شکر تھے، حضرت صدیق اکبرؑ، حضرات حسین سے از حد محبت فرمایا کرتے تھے، حضرت امام حسن کو دیکھ کر خوشی سے فرماتے، حسن تو علی کی نسبت نبی اکرم ﷺ کے زیادہ مشابہ ہے، اس پر حضرت علی المرتضیؑ بھی خوب مسکراتے، حضرت فاروق اعظمؑ بھی ان شہزادوں کا اپنے بیٹوں سے زیادہ خیال رکھتے، حضرت عثمان غنیؑ نے اپنی صاحبزادی حضرت امام حسنؑ کے نکاح میں دی، ان کے وصال کے بعد حضرت امام حسینؑ نے اس سے نکاح پڑھا، گویا یہ دونوں شہزادے حضرت عثمان غنیؑ کے داماد تھے، خلفائے ملاشہ پر اعتراض کرنے سے پہلے ان کے گھر بے رہنے کو بھی دیکھ لینا چاہئے

حضرت سیدنا صدیق اکبرؑ پر ایک یہ اعتراض حضرت فاروقؓ کو خلیفہ بنانا ہے کہ انہوں نے حضرت عمر فاروقؓ کو خلیفہ نامزد فرمایا تھا، حالانکہ حضور اقدس ﷺ نے حضرت عمر کو صرف ایک سال صدقات کی مخصوصی پر مامور فرمایا اور اس کے بعد معزول کر دیا تھا، اس طرح آپ کے معزول کو

منصوب بنانا آپ کی مخالفت ہے، اس کے کئی جوابات ہیں، اولاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معزول تصور کرنا کمال کی بے عقلی ہے، اگر کسی شخص کو کسی کام کا متولی بنایا جائے اور وہ اس کام کو سرانجام دے تو اس کی تولیت تمام ہو گئی، اس کو یہ نہ کہا جائے گا کہ وہ تولیت سے معزول ہو چکا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تولیت کا انقطاع اس قبل سے ہے کہ صدقات کی مخصوصی کا کام تمام ہو گیا تو ان کی تولیت بھی تمام ہو گئی، اگر کوئی اس کو معزول کہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ ہر نبی موت کے بعد معزول ہو گیا اور ہر امام موت کے بعد معزول ہو گیا، ثانیاً اگر یہ قبول کر لیا جائے کہ حضرت عمر معزول ہو گئے تھے تو اس کی مثال یہ ہے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مراجعت کے بعد ان کی خلافت سے معزول ہو گئے تھے لیکن چونکہ بالاستقلال نبی تھے اس لئے یہ معزولی ان کی امانت کی لیاقت میں نقصان پیدا نہیں کرتی، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ معزولی ان کی امانت کی لیاقت میں نقصان پیدا نہیں کرتی، ان کے حق میں ارشاد نبوت ہے، ﴿لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا لَكَانَ عَمِّرَهُ أَكْمَرَهُ بَعْدَ كُوئِيْ نَبِيٍّ هُوَ تَأْوِيلُ ضُرُورَتِ عَمِّرٍ﴾ نبی ہوتا، ثالثاً، حضور اقدس ﷺ کی مخالفت تو یہ ہے کہ آپ نے جس کام سے منع فرمایا، اس کا ارتکاب کیا جائے، شدیہ کہ ان کے معزول کو منصوب کیا جائے، پس اگر حضور اقدس ﷺ نے نصب عمر رضی اللہ عنہ سے روکا تھا اور حضرت ابو بکر نے ان کو منصوب کر دیا تو اس سے مخالفت لازم آتی ہے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوا، پھر مخالفت کیسے ہوئی، رابعاً اگر حضور اقدس ﷺ کے نکرده کام کو کرنے سے ان کی مخالفت لازم آتی ہے تو حضرت امیر حضور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جنگ کرنا بھی آپ ﷺ کی مخالفت کرنا تصور ہو گا، لہذا جو اعتراض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر وارد ہو گا، ہی حضرت علی الرضا رضی اللہ عنہ پر وارد ہو گا، معاذ اللہ من ذالک

والصلوة والسلام على سيد الانبياء

والمرسلين الى يوم القيمة والدين

یار خوار

کنز ایمان کے در شہوار صدقی عتیق

جانِ عرفان، پیکرِ انوار صدقی عتیق

سرورِ کونین کے دلدار صدقی عتیق

ثانیِ اشیع اذھا فی الفار صدقی عتیق

جن کو خیرالناس بعد الانبیاء کہدے نبی

کیوں نہ ہوں پھر محورِ اخیار صدقی عتیق

اول من یدخل الجنة صدقی و صفا

اور عتیق "من عذاب النار صدقی عتیق

کیوں نہ ہوان کی صداقت کی دہائی دہر میں

جن کو کہتے تھے شہزاد صدقی عتیق

جن کو کہتا ہے اولو افضل اپنے قرآن میں خدا

وہ کمالِ فضل کے شہکار صدقی عتیق

کس محبت سے کہا محبوب نے ہجرت کی رات

کیا تجھے کھٹکا ہے "میرے یار" صدقی عتیق

پوچھ عمر و بلال و حیدر و سلمان سے

کس قدر ہیں مونس و غنوہ صدقی عتیق

دو جہاں میں اس پر راضی ہیں خدا و مصطفیٰ

جس پر راضی ہو گئے سرکار صدقی عتیق

ہوں تمہارے سلسلہ پاک کا ادنیٰ غلام

بخش دو اب دیدہ بیدار صدقی عتیق

☆☆☆

حضرت صدیق

داہ کیا رتبہ ہے یار غار کا
 کنزِ رحمت کے درصوبہ کا
 دہر سے لے کر قیام حشر تک
 جس پر سایہ ہے سدا سرکار کا
 جس کے ایمان کو نبی کامل کہے
 کون پھر ٹانی ہے اس دلدار کا
 دولتِ کونین خاک پا نہیں
 ہاتھ جب تھاما شہ ابرار کا
 غار میں محبوب پر قربان ہوئے
 ہو گیا اونچا پھریا پیار کا
 جان مال اولاد نج کے عرض کی
 تو ہی مالک ہے میرے گھر بار کا
 حضرت صدیق کا ذوقِ نظر
 نور ہے ہر دیدہ بیدار کا
 جن رہوں سے وہ گئے صاحبِ نبی
 میںہ برستا ہے وہاں انوار کا
 کیوں نہ اہل درد کا غم خوار ہو
 جب ہے نائبِ دہر کے غم خوار کا
 میرے ہاتھوں میں ہے دامانِ کرم
 مجھ کو کیوں ڈر ہو عذابِ نار کا
 گلشنِ ارمان چمک اٹھا یونہی
 ذکرِ چھیڑا ہے نبی کے یار کا
 فیضِ مرشد سے غلامِ مصطفیٰ
 لو دریچہ کھل گیا افکار کا

فاروق اعظم

ہدایت کا مینار فاروقِ اعظم
 فراست کا شہکار فاروقِ اعظم
 خدا کا وفادار فاروقِ اعظم
 نبی کا فدا کار فاروقِ اعظم
 ابو بکر و عثمان و حیدر کا پیارا
 صحابہ کا دلدار فاروقِ اعظم
 زمانے کا رہبر زمانے کا محور
 زمانے کا سردار فاروقِ اعظم
 شجاعت کا پیکر عدالت کا خوگر
 خلافت کا معمار فاروقِ اعظم
 کلامِ خدا کا ہوا ترجمان بھی
 رسالت کی گفتار فاروقِ اعظم
 اشے جتنے طوفان جور و جفا کے
 بنا حق کی دیوار فاروقِ اعظم
 ہر اک دشمنِ مصطفیٰ کا ہے دشمن
 مسلمان کا غم خوار فاروقِ اعظم
 مجھے حادثاتِ جہاں کا الم کیا
 ہے میرا مددگار فاروقِ اعظم
 غلامِ در مصطفیٰ عظمتوں کا
 یقیناً ہے حق دار فاروقِ اعظم

☆☆☆

جہان ولیاں

خوبی نعمت

بر الاسماء

تحفۃ القاصدین

تصور ذوق و رایت

تقصی احمد
بن علی

تذکرہ
مجربین اللہ عزیز

میرزا شریعت کریم

سیرت
حبلت نوشام

شان حبیب المعلم
روایات الرسل

مولانا نورانی سعی
بارہ تیریں

حضرت پیر

خوبی طرانی فتن

الله عزیز کے شفائد

نادیا دشن

پیغمبر عزیز زدان

تذکرۃ الاولیاء

کشف المحبوب

ایمان کمزوریاں

اولان علاج

فقہ المکمل علی
قوت اور
قیرت الیمان

بزرگ

کیا پ جاتیوں قیوم العیون

قادری رضوی کتب خانہ

کنج سخن اوزان لامبو 042-7213575